

حیم شهباز سین اعوان کمالی سیدی شارد رشید حیم محد سیسن دنیا پوری روانشهایه

وفى وعلى تتابون كالطيم مركز فيتكر استيش حنفى كتب خانه محمد معاذ خان

ورس تصامی کیلیج ایک مغیر ترین

المتكرم وال

طاءد ورتد كالمحكال مبان

sulemani@gmail.com

الميد المن : رجان متاركيت غزني مستريب الدوب إذار لا متور 8042-37361408 : 042-37232788, 042-37361408 : 0 مريد الن ي نياز ويكم مقب خان باباريشورند يوك چرر تى لا بور - 042-37312648, 37352802 : 0:042-37312648, 37352802

syed imran sherazi جمله هوق بحق ماشر محفوظ میں

كائيذ قانون مفرداعصاء حكيم شهباز حسين اعوان كمالى سومدروى حكيم عروه وحيد سليماني آر-آر-پنٹرز-لاہور تتبر ۲۰۱۳ .

_/ • ١٠ د ب

Scanned by CamScanner

كتابكانام

معنف

î,

ايريش دوم

3 sved imran sherazin www.

مغردنبض ببنجاني كاآسان طريقه 48 مغردقاردره يتخص 50 ذائح يتخيص 11 51 12 ركمت تخيص 51 وردول يتخفي 15 52 فسلات تشخص 16 52 خون تخص 17 52 مرض اور علامت يس فرق 24 54 اعصابي معنلاتي تحريك كماعلامات 25 54 معنلاتي اعصابي تحريك كاعلامات 27 58 مصلاتي فدى تحريك كاطلامات 28 61 فدى معتلاتى تحريك كى علامات 28 64 فدى اعصابي تحريك كى علامات 29 66 اعصابي غدى تحريك كى علامات 30 68 اعضابي غذائي اوردواتي 34 71 غدى غذائي اوردواعي 35 71 عصلاتي غذائي اوردواتي 38 71 قاتون مفرداعضا مكادويات 40 42 كامطلاحات 77 فارماكو ييا قانون مغرداعضاء 46 78

بهت بر الزارك بات مقدمه مخضرتعارف قانون مفرداعضاء مفرداعضاء المرادب انبانى جىم كى تتسيم قانون مفردا عصاءادرانساني جسم مفرداعضا وكابنا فعلى مرداعصاء مفرداعضا وكى ابميت مفرداعضاءكاآبس ش تعلق مغرداعضاء ككام مغرداعضاء كمخرابي انسانى جم كانتات كاحسب آمان فريک جمليل تسکين مشيئ فريكي كيادى تركيس اكر تح يمي لتخيص امراض

3		كائتيذ قانون مغرداعصاء
اعصابي عضلاتي شربت	90	ادويات ك افعال واثرات
اعاده شباب	90	مشيني اثرات ريحضوالي ادويات
ترياق بلثر يشر	91	كيميادى اثرات ركصفوالى ادويات
سداجواني	94	اصول علاج -
دلييكونين ٧	102	علاج تحضوص کلیے
اعصابي غدى لمين	105	مجربات قانون مغرداعضاء
	105	مغررح شابى
		اعصابي غدى ترياق
		غدى اعصابي كمين رو
	107	غدى اعصابي مسبل
	107	جوارش کمونی س
سغوف السر	108	جوارش المي
حايس	109	غدى اعصابى بإضم
قرص باشم	109	اعصابي غدى بإضم
روفن يرتى	110	سفوف ليكيوريا
		تيان كزاد
المبيرمعده	111	غدى عصلاتي باضم
ليكور ين	111	غدى اعصابى شربت
CONTRACTOR OF A	100	سنوف پتري تو ژ
حبخاص	112	غدى اعصابى مرجم اعدانى نىرى مەز
حب کیس ڈیل	113	اعدالات المسما
كثدن	114	U. Ongue.
	اعاده شباب ترياق بلذ پريش مداجوانی دلي كوني دلي كوني محمد لاق ملين غدى اعصابي لين عصلاتى اعصابي متوى معند لاتى اعصابي متوى معند تري معند تري معند تري معند تري معند مرت معند مرت مون مرت مرت مون مرت مون مرت مون مون مرت مون مرت مون مون مون مون مون مون مون مون مون مون	90 اعاده شباب 91 ترياق بلد پريش 94 مداجوانی 102 دلي کونيں 105 اعصابی غدی ملین 105 غدی اعصابی لمين 106 عضلاتی اعصابی متوی 107 منوف مخرح 108 منوف السر 109 حالی

,

he

	كاتيذ قانون مفرداعضاء	
127 سفوف،	مصغى خاص كيسول	
127 غدى اعم	ليكوديا بتدكيسول	
128 تجير معد	بإشوم	
128 حب مقود	سفوف اسماكي	
129 مغوف.?	سفوف شفاء مغلظ	
129 الميرجكر	عضلاتي غدى سفوف	
130 چورن با ^خ	سپر مقوى باه كېپسول	
130 גאוטני	سرمقوى باه كوليان	
131 حبمردا	لاتاني چورن	
131 اعصابي	- · · ·	
132 حيام	جگری 🗧	
133 رب برك	سفوف سورنجان	
133 اعصابي غ	لاثاني كف سيرپ 🔁	1
134 عضلاتيء	سفوف سيس ثريل	
134 يادگار مخجن	حب فولادي لاثاني	
The second s	سفوف تيزابيت توثر	
136 كشة مرج	سغوف شابى لاثاني	
136 كشة تقيق	سلوف بخير	
137	حب مقوى جكر	
137 كشة صدة	<u>ترياق</u> زله	v
	<u>ג</u> יוט נל	
138 كشة كچله	سنوف شنذك	
	غدى اعصابي ترياق معده	
	127 غدى اعم 128 تبخير معد 1 128 حب متوى 129 حب متوى 129 مغوف ج 129 مغوف ج 130 جورن باخ 131 جورن باخ 132 مي مردا 133 مي مردا 133 مي ما ي 134 مي ما ي 135 مي ما ي 136 مي مي ما 137 مي مي ما 138 مي مي ما 139	إشوم128تغير معدممنوف السماك128128حب مقولمنوف السماك129129منوف جرارمنوف شفاء مغلظ129129منوف جرارمعنول قدى سنوف129129منوف جرارمعنول قدى سنوف130130منوف جرارمعنول قدى سنوف130130معرد المعاليمعنول قدى سنوف130130معرد المعاليمعنول أوليان130131معرد المعاليمعنول أوليان131131معرد المعاليمعنوف سورنجان133133معرد المعاليمعنوف سورنجان133134معالي تعاليمعنوف سورنجان134134معالي تعاليمعنوف تيم رئيل134134معالي تعاليمعنوف تيم رئيل136معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم رئيل136معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم رئيل136معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني137معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني137معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني137معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني138معنوف تيم ريوانيمعنوف تعنيم138معنوف تعنيم ريوانيمعنوف تعنيم138معنوف تعنيم ريوانيمعنوف تعنيم138معنوف تعنيم ريوانيمعنوف تيم ريواني138معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني138معنوف تيم ريوانيمعنوف تيم ريواني138معنوف تيم ريوانيمعنوف تعنيم ريواني138معنوف تيم ريوانيمعنوف تعنيم ريواني

6			كائيذ قانون مغردا مصاء
163	غدى معنلاتي حرق	151	کشة قلعی
164	فدىامساليحرق	152	کشة سددحات
164	احصابي غدى مرق	152	كشة يوست يعندم رالح
166	قالون مغردا مضاوك فحقيقات	153	אמב נ הראתי
167	احصابي غذائي	12	کشتہ متانے کے لیے کل حکمت ک
167	غدى غذاكي	153	طريقته
167	معنلاتي غذائي	154	رسالجن وفي
168	قانون مغردا عضاءاورارواح	155	يوهلك چورن
168	ارواح کی پیدائش	156	پاچن چورن
169	ارواح کے کام	156	موسلى آدى چورن
169	ارواح كام كي كرتى بي	157	يميهه أفلك ونى
173	چارٹ اغذیہ	157	كريودنيه
173	بغتر	158	مورل جورن
173	الآار	158	دمردر بچک چورن ج
173	سوموار		المحاكم جورن
174	عکل	159	چىدكان كوليان
174	**	160	شول برن بوک اکنی تلای دنی
174	جعرات	160	
175	هدد المبادك	162	فرقيات كالون مغردا جعناء اعساني معنلاتي فرق
176	ديتمائة مطب		معلاق امسالي ارق
176	رمودطانع	162	مسلاقى فدى مرق
182	مريم جادد	163	0,0-0-

syed imran sherazi

كانيذ قانون مفرداعصاء

انتساب

یں اپنی اس علمی کاوش کو جو خلوص نے ساتھ اس مقصد کے لئے کی گئی ہے کہ طب پاکستان المعروف قانون مفردا عضاء زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پینچ سکے۔ اپ مرشدومر بی عارف دفت شیخ المشائخ شہنشاہ ولا یت سلطان العارفین حضرت فقیر پروفیسر بیاغ حسیین کمال میں دور دور ایش دور میں حکوما ہے کہ حکوما

دارالفیصان پنوال شریف براست محصیل چوک چکوال کے مبارک نام ہے موسوم کرتا ہوں۔

آپ کى نبت فى سنوادا مىراانداز حيات مى اگر آپ كاند موتا توسك د نيا موتا

خادمن عيم شهبا زحسين اعوان كمالى سوبدروى اعوان كالمي سويدره

syed imran sherazi دياچ

علم طب کی ہزاروں سالوں کی تاریخ میں پاکستان کے عظیم سائندان مجدد طب موجد قانون مفرد اعضاء علیم انقلاب المعالج دوست محد صابر ملتاتی ایس شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی جدید ترین تحقیقات سے طبی دنیا میں عظیم انقلاب بر پاکر دیا۔ انہوں نے اپنی تحقیقات سے مید ثابت کیا کہ جوغذا ہم کھاتے ہیں۔ ان سے اخلاط بنتے ہیں۔ اخلاط جب مجسم ہوتے ہیں تو مفرد اعضاء بنتے ہیں۔ مفرد اعضاء کے ملنے سے انسانی جسم ملتا ہے۔ ان مفرد اعضاء کے افعال میں کی بیش سے امراض پید اہوتے ہیں۔

مرض کی صورت میں تمام مفرد اعضاء بیار نہیں ہوتے بلکہ کوئی ایک مفرد عضو بیار ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام امراض وعلامات کو (قلب وعضلات 'جگر وغد داور دماغ واعصاب) مفرد اعضاء میں تطبیق دے کرعلم طب کو انتہائی آسان کر دیا۔ انہوں نے اپنی ان جد بدترین تحقیقات کونظر بیمفرد اعضاء کے نام سے طبی دنیا کے سامنے متعارف کر وایا۔

حکیم انقلاب نے اٹھارہ سے زائد کتب اور بے شارر سائل کی صورت میں اپنی جدید تحقیقات ہزاروں روپوں کے پنج کے ساتھ طبی دنیا میں پیش کیا۔

نظريد مفرداعضاء كے تحت انسانی جسم اور مفرداعضاء كے افعال غذاؤن اور دواؤن كے افعال واثرات كے متعلق جننى تحقيقات اور معلومات پيش كى كئى بيں _ آج تك ميڈ يكل سائنس كى تاريخ ميں پيش نبيس كى گئى _ نظريد مفرد اعضاء انتہائى ستا اور ساعند يفك طريقة علاج ب – اس طريقہ علاج كو جانے والا معالے مريض كى نبض اور قارورہ جسمانى رنگت وغيرہ ب بى امراض كاپنة چلا ب _ نظريد مفرد اعضاء كر تحت شخيص يقينى ہوتى ب تو علاج

محتذقانون مفرداعصاء syed imran sherazi

بھی یقینی ہوتا ہے اور کسی مشتم کاظن یا شک نہیں رہتا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شائفتین مفرد اعضاء حكمائ كرام اور ڈاكٹر صاحبان جب نظريد مفرد اعضا كى خوبياں سنتے ہيں يا ديکھتے ہں۔تو نظر بیمفرد اعضاء کو سیکھنا جاتے ہیں۔اب ان کی خواہش بیہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک الي مختصري كتاب باتحدالك جائ جس كويد هكروه نظريد مفرداعضاء يرعبور حاصل كرليس ان کی پیخواہش پوری نہیں ہوتی کیونکہ مارکیٹ میں کوئی بھی ایس مختصراور جامع کتاب نہیں ہے اب قارئين قانون مفرداعضاء نظريد مفرداعضاء كخت شائع شده كتب خريدت بي ادر ان كامطالعة شروع كرديت بي مكرا كثر نظرية مفرداعضاء كو بجصف تاصرر بي بي صرف چند شائقین نظریه مفرد اعضاء کوتھوڑ ابہت سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔لیکن بینظریہ مفرد اعضاءكوا تنانبين تمجمه يات كدنظر يدمفر داعضاء كخت علاج معالجه كرسكين-ميرى نظريه مي شاكفين اورطالب علموں كونظريه مفرداعضاء بجصح ميں مشكلات پيش آن كى وجديد ب كدنظريد مفرداعضاء ك تحت شائع شده كتب انتهائي تحقيقى ادرعلى بي جن کو بجساعام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو بغیر کسی ماہراستاد کے بجستا بہت مشکل ہے اس بات کو مدنظرر کھ کرمیں نے بید کتاب نظرید مفرد اعضاء کوآسان ترین پیرائے میں سمجمات کے لئے کہ جاس کتاب کو پڑھ کر نہ صرف حکماتے کرام وڈ اکٹر صاحبان بلکہ معمولي يزهالكها فخص بهى نظريه مفرداعضاءكوا جيمي طرح سمجص كاادركافي حدتك نظريه مفرد اعصاء يرعبور حاصل كركے كا-

اس کتاب کولکھنے کا مقصد بی صرف میہ ب کہ نظرید مفرداعضاء زیادہ نے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور زیادہ نے زیادہ دماغ اس کو پڑھ کر سجھ کر نظرید مفرد اعضاء کے تحت زیادہ نے زیادہ تحقیق اور کام کر سکیں ۔ کیونکہ ہمیں یقین ب کہ تحقیق کرنے والے دماغ مرف یورپ امریکہ روس چین اور دوسرے ممالک میں بی پیدائیس ہوتے بلکہ ہمارے ملک میں بھی نہایت قابل ترین لوگ موجود ہیں ۔ جو کی بھی میدان میں عظیم انقلاب بر پاکر سکتے ہیں ۔ کی صرف از صرف وسائل کی ج

كانيذ قانون مفرداعضاء

10

بقول ثاعر

ذرائم ہوتو بیمٹی بڑی زرخیز سے ساق نظریہ مفرد اعضاء میڈیکل سائنس میں ایک ایساعظیم انقلاب ہے۔ جس سے یورپ امریکہ روی چین دغیرہ دوسرے مما لک بالکل بے خبر ہیں۔ اس تحقیق کا سہرا مملکت خداداد پاکستان کے نا مورسیوت حکیم ڈاکٹر دوست محد صابر ملتاتی کے سربے انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ نظریہ مفرد اعضاء تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ کیونکہ نظریہ مفرد اعضاء ہی قدرتی فطری اور اصولی طریقہ علان ہے میں نے اس کتاب میں نظریہ مفرد اعضاء کا تحوز اکٹھا کر دیا۔

اس کتاب کوتر تیب دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ انتہا کی تحقیقی علمی اور مشکل موضوعات کو نہ چھیڑا جائے بلکہ نہایت ہی آسان اور عام فہم الفاظ میں نظریہ مفرد اعضاء سمجھانے کی کوشش کی جائے۔

جب طالب علم اور شائقین قانون مفرداعضاء نظرید مفرداعضاء کو بحد کر کی حد تک عبور حاصل کرلیا تو پھران میں ہے جومزید تحقیق کرنا چاہیں گے ان کے اندرخود بخو دنظرید مفرد اعضاء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا جذبیہ پیدا ہو چائے گا۔

نظرید مفرداعضاء کانچو (اکشاکر کے میں نے اس کتاب کو غلطیوں سے پاک کرنے کی ہر مکن کرشش کی ہے مگر پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی محسوس کریں تو بچھے ضرور آگاہ کریں۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔ اس کے علاوہ کتاب ہذا کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی اپنا فرض بھیس۔ آپ کی رائے اور قیمتی مشوروں سے کتاب ہذا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ خادم فن واطباء

حكيم وذاكثر شهباز حسين اعوان كمالى سويدروى

syed imran sherazi

كاتيذ قانون مغرداعضاء

syed imran sherazi

بہت بڑے اعزاز کی بات

بيركماب كائير قانون مفرداعصاءمع شابهكار بحربات مير استاذ يحترم جناب استاذ الحكماء عكيم محمد يليين صاحب دنيا يورى رحمة الله عليه كى يسنديده ترين كتاب تقى-آب ايخ یاس آنے والے تمام طالب علموں اور نے شائفین قانون مفرد اعضاء کوائی کتب کے سیٹ ے ساتھ یہ کتاب دیتے تھاور یہ بات کہتے تھے کہ یہ میرے شاگردکی کتاب ب پہل اس کو پر حیس پھر میری کتابیں اور دوہری کتب پر حیس ۔ تب آپ کوقانون مفرد اعضاء کی جلد سمجھا جائے گی۔استاذ محترم کی اس پسند بدگی کی وجہ ہے کئی لوگ تو دور دراز کا سفر طے کر کے مجھے ملنے کے لئے سوہدرہ بھی آئے ان میں ۔ ایک بھائی فضل الرحن صاحب جو کہ وزارت خارجداسلام آباديس ملازم بي مجص ملنے كے لئے سوہدرہ تشريف لائ اور بتايا ك می علیم يلين صاحب ونيايورى رحمة اللد کے پاس دنيايور كيا تھا آپ نے مجھے آپ ك كماب كائيذ قانون مفرد اعضاء كالتحفه ديا ادر فرمايا كه يدكماب مير ايك شاكرد في كسى ہاور بیمری سب سے پندیدہ کتاب ہے۔ بید بیں آپ کو خاص طور پر تخذ دے رہا ہوں آپ اس کو ضرور پڑھیں فضل الرحن صاحب کے مطابق وہ علیم صاحب کی سے بات س کر بے حد جران ہوئے اور ای دن فیصلہ کیا کہ وہ مجھے ضرور ملیں کے اس کتاب کا جناب استاذ الحکماء علیم محد يلين صاحب دنیا پوری رحمة الله عليه کی پنديده كتاب موتا اس كتاب اور مر التي بهت بو اعزاز كابت ---

كائيذ قانون مفرداعضاء 12 مقدم يُوْتِى الْحِكْمَةَ مِنْ ايَّشَآءُ وَمَنْ يُّوْتِ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خيراً كثيراً ٥ وہ حکمت عطا کرتا ہے۔ جے چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی اسے خیر کیٹر کا خزانہ دے دیا گیا۔ علم فن طب أيك بهت بدواطبي خزارته ب- الله الني لوكوں كوعلم فن طب عطا كرتے يں -جواس كے طلب كارين اور اہليت ركھتے ميں چنانچداللد تعالى فرماتے ميں-وَما يَذَكَّرُو إِلا أَوْلُو الْبَابُ ٥ نہیں تفیحت یاتے مگراہل عقل جس كاواضح مطلب ب كه جوابل عقل نہيں ہيں وہ اس كونيس تجھ كے ركہ حكمت کیاہے یعن حکمت یانے کے لئے اہلیت کی ضرورت ہے۔علم فن طب انسان کی پیدائش کے ساتھ بی اتار دیا گیا تھا۔ دوسر لفظوں میں ہمارے جدامجد بادا آدم کوفرشتوں کی موجودگی میں عطا کردیا گیا تھا۔ اللد تعالى كاعطاكيا مواعلم آدم عليه السلام ك بعد نبيون وليون اور اللدك بركزيده آدميوں كونتقل ہوتار ہا۔ جون جون زمانه گذرتا كيااى علم ين خن وخاشاك ملت كئ -جنهين حضرت لقمان، ستراط، بقراط، زكريارازى، جالينوس الي تجربات مشابدات مصاف كرتے رب-ان کے بعد بہت ساراز مانہ یا صد يوں تك علم فن طب ميں سكوت رہا۔ اس دوران

ایلو پیتھی نے جنم لیا۔ جس نے طب اسلامی کو بہت نقصان پہنچایا۔ جس کا برداسب جراثیم کی دریافت تھا۔ جراثیم کو دریافت کرنے والوں نے ہر مرض کا سبب جراثیم کو تسلیم کرلیا۔ چونکہ طب اسلامی جے طب قدیم بھی کہا جاتا ہے میں جراثیم کو سبب مرض تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ مرض نے نتیجہ میں جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں۔ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایلو پیتھی اور طب اسلامی میں بیدتھا دم بہت نقصان دہ ثابت ہو۔ کسی طبیب کو ایلو پیتھی کے مقابلہ میں بولنے کی جرأت بنہ ہوئی۔ اگر چہ حکیم اجمل

13

خاں صاحب رحیم احمد دین صاحب حکیم محمد حسن قرشی صاحبان نے طب اسلامی کی ترقی خاں صاحب رحکیم احمد دین صاحب حکیم محمد حسن قرشی صاحبان نے طب اسلامی کی ترقی کے لئے بہت سے کار ہائے نمایاں انجام دیئے لیکن بدشمتی سے ان کے پاس ایلو پیتھی اور دوسری طبوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی کسوثی نتھی۔ اس لئے کوئی طبیب ایلو پیتھی کوللکار نہ سکا۔ طب میں بے شارخس وخاشاک مل چکے تھے۔ انہیں صاف کرنا بھی ان کے بس کا کامنہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ علم فن طب کی اصلاح اور ترقی کے لئے تحکیم انتلاب المعالیٰ دوست محمد صابر ملتانی کو بھیج دیا۔ اس اللہ کے بندے نے۔ نظرید مفرد اعضاء ایجاد کیا جس کے ذریعہ اس طب کے تمام پہلوؤں اور نقاط پر کھل کر بحث کی اور اس کے خش وخاشاک صاف کئے۔ ساتھ ہی ایلو بیتھی کو اس دعو کی کے ساتھ للکارا کہ ایلو بیتھی ازان سائٹیفک اینڈ رانگ یعنی ڈاکٹری طریقہ علاج غیر علمی اور غلط ہے۔ آپ نے اس سلسلہ میں ۱۸ کے قریب طب کے مختلف موضوعات پر ہزاروں روپ کے چینج پر کتب تحریر کی ر آج تک کوئی مائی کالال ان کا جو ابنیس دے سکا۔ است پر از وں روپ کے چینج پر کتب تحریر میں ر آج تک کوئی مائی کالال ان کا جو ابنیس دے سکا۔ دی سے بیتو ان طرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بیتو ان کام لینا چا ہتا ہے لیتا ہے پھر است پر بالی بی بیتا ہے لیتا ہے پھر دی سالہ میں ۱۸ کے قریب طب کے تمام پہلوؤں پر کام کر چکے تو آئیس اللہ تعالیٰ نے دان سالہ الیا ہے۔

كائتيثه قانون مفرداعضاء

ان لله وانا اليه راجعون0 آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے استادصاحب کی قائم کردہ تر یک تجد پد طب کو حتم نہیں کیا۔ بلکہ پہلے سے زیادہ ماہناموں اور کتب کے ذریعے نظریہ مفرد اعضاء کو آگے بر حایا اور آپ کے نظریہ کی تقدریق کر کے قانون مفرد اعضاء میں تبدیل کیا۔ اب اللہ تعالی كافضل ب كماستادصاحب كا يجادكرده قانون مفرداعضاء كى مزيدتشر تكوتو ضيح سے لئے دنیا پورے علیم محدیثین اور علیم محد شریف ۔ پاکپتن ے علیم محدیثین عادلہ لا ہورے علیم محد شفيع طالب صاحب قادرى _ جناب لياقت على حقاني صاحب اورراو لينذى ب عليم منوراحد صاحب اوروزيرآباد ب حكيم شهباز حسين اعوان صاحب كتب لكهدب بي-بركتاب جوآب ك باتهول مي ب- كائيد قانون مفرداعضاء ك نام يحيم شہباز حسین اعوان صاحب نے شائع کرائی ہے۔ اس میں آپ نے قانون مفرد اعضاء کی حقيقت ما جيت اور افاديت پر مدلل بحث كى ب اور آخر ميں اينے خانداني نسخه جات بھي د بے بی - اے خود پڑھیں دوسروں کو پڑھا ئیں اور خلق خدا کومستفید کری۔ نیز اللد تعالی بے دعام کہ وہ آپ کواس سے زیادہ مستفید فرمائے اور مصنف کواجر عظيم ينوازي

حكيم محريثيين د نيايوري

syed imran sherazi

یاب نمبر ۱:

syed imran sherazi مختصر تعارف قانون مفردا عضاء

15

نظر بدمفرداعضاء بالكل نى تحقيق ب طب كى ہزاروں سالوں كى تاريخ ميں اس كا اشارہ تک نہیں ملتا۔ بیہ موجودہ دورکا جدیدترین انتہائی سستا ااور سائنڈیفک طریقہ علاج ہے جس کے موجد علیم انقلاب ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء میں مرکب اعضاء کی بجائے مفرد اعضاء کے تحت علاج کیا جاتا ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں تمام اعضاء پیارنہیں ہوتے بلکہ کوئی ایک مفرد عضو بیار ہوتا ہے مثلاً کمی انسان کے معدہ ادرانتز یوں میں خرابی ہے تو ہم مکمل معدے اور انتزایوں کی خرابی کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ معدے اور انتزيوں ميں خرابي كى تين صورتيں ہوتى ہيں۔ (١) مريض كواسمبال آرب موں-(۲)مریض کو پیچش ہو۔ (۳)م یض کوتبض ہو۔ (٣) طب بيةينوں صورتيں ايک دوسرے بالکل مختلف ہيں ليکن معدے ميں ہی ہیں۔اب ہم ممل معدے اورانتزیوں کا اصول طور پر مرکب صورت میں علاج نہیں کر سکتے (۱) اسپال کی صورت میں معد اور انتزیوں کے اعصاب بیار ہوں گے۔ (٢) پیچش کی صورت میں معدے اور انتز یوں کے غدد بیار ہوں گے۔

(٣) قبض کی صورت میں معد اورانتز یوں کے عضلات بیار ہوں گے۔

اس لئے جب تک ہم معد اور انتز یوں کے مفرد اعضاء کے مطابق علاج نہیں کریں گے ہم یقینی علاج نہیں کر بےتے ۔ یہی صورت سارے انسانی جسم کی ہے سارے انسانی جسم کے تمام امراض کے لئے علاج کی صورت میں مرکب اعضاء کی بجائے مفرد اعضاء کو مدنظر رکھنا پڑےگا۔اس طرح ہی یقینی تشخیص اور پیخطا علاج ہوسکتا ہے۔

مفرداعضاء سے کیامراد ہے

مفرداعضاء بے مرادا لیے اعضاء ہیں جن کے جز اورکل میں کوئی فرق نہ ہو یعنی جو تعریف کل پرصادق آئے وہی تعریف جز پر بھی صادق آئے۔مثلاً گوشت اعصاب ہڈیاں وغیرہ ان کے جز اورکل میں کوئی فرق نہیں۔

ماڈرن سائنس بیشلیم کرتی ہے کہ انسانی جسم چھوٹے چھوٹے جاندارزرات سے ل کر بنا ہے ان جاندارزرات کو سیلز کہتے ہیں۔ بیسیلز آپس میں مل کر بافتیں بناتے ہیں۔ ان بافتوں کو (Tissues) نشوز کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں کل جاراقسام کے نشوز ہیں۔

> (۱) نروزنشوز (Nervous Tissues) عصى خليات (۲) مسکولرنشوز (Muscular Tissues) کچی خليات (۳) ايچ هميليل نشوز (Epithalial Tissues) الحاقی خليات (۳) کنکندو نشوز (Conective Tissues) الحاقی خليات بيدجارتم سے مختلف خليات ہيں جن سے انسانی جسم تر تيب يا تا ہے۔

بور اسے سے بیات بین کے سرحان مسم رسیب پاتا ہے۔ (۱)عصبی خلیات سے تمام جسم کے اعصاب بنتے ہیں۔اوران کا مرکز دماغ ہے۔ (۲)لحمی خلیات سے تمام جسم کے عضلات بنتے ہیں اوران کا مرکز دل ہے۔ (۳)الحاق خلیات سے تمام جسم کے غدد بنتے ہیں اوران کا مرکز جگر ہے۔ (۳)الحاق خلیات سے تمام جسم کی ہڈیاں۔رباط اوراوتار بنتے ہیں۔

كاتيذ قانون مفرداعضاء انسانى جسم كے تمام اعضاء انہى چارتىم كے ظليات سے ل كربے ہوئے ہيں۔ انسانى جسم كيقشيم انسانی جسم کواب ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (١)بنيادى مفرداعضاء-(٢) حياتي مفرداعضاء-(٣) خون-

17

۱. بنیادی مفرد اعضاء:

بیا یے اعضاء ہیں جن پرانسانی جسم کی بنیاد ہے بیانسانی جسم کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ بیالحاقی خلیات سے بنے ہوئے ہیں ان کوسا کن اعضاء کہتے ہیں مثلاً ہڑیاں۔رباط ادتار وغیرہ۔

۲. خياتی مفرد اعضاء:

حیاتی مفرداعضاءان مفرداعضاءکو کہتے ہیں جن کے بغیرانسان زندہ نہ رہ سکے سے تین ہیں۔

> (۱) اعصاب جن کامرکز دماغ ہے۔ (۲) عضلات جن کامرکز دل ہے۔ (۳) غدد جن کامرکز جگر ہے۔

ان حیاتی مفرد اعضاء میں دل دماغ اور جگر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یہی مینوں مفرد اعضاء اعضائ رئیسہ کہلاتے ہیں ان نینوں حیاتی مفرد اعضاء پر انسانی زندگی کا دارد مدار ہے انسانی جسم کے تمام مرکب اعضاء مثلاً معدہ آستیں مثانہ وغیرہ ان ہی مفرد اعضاء اعصاب عضلات اور غدد سے مل کر بے ہوئے ہیں بیصورت سرے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کی ہے۔ مرکب اعضاء کے تمام افعال اپن مختلف مفرد اعضاء کی وجہ سے مختلف ہیں

كائيز قانون مفرداعضاء

اور بیاب اپ مرکز کے تابع ہیں مثلاً معدہ کے اعصاب کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے معدہ کے عضلات کا تعلق دل کے ساتھ ہے معدہ کے غد دکا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ اگر دماغ واعصاب میں کوئی خرابی ہو گی تو معدہ کا اعصابی حصہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ ای طرح اگر جگر دغد دمیں کوئی خرابی ہو گی تو معدہ کا غدی حصہ بھی اس سے ضرور متاثر ہوگا۔

18

یمی صورت جسم کے تمام مرکب اعضاء میں پائی جائے گی۔

انسانی جم کے تمام مرکب اعضاء عضلات غدد اور اعصاب سے ل کر بے ہوئے بیں جو کہ مفرد اعضاء ہیں ان مفرد اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر مرکب اعضاء بنانے میں الحاقی مادہ سے جو بے الحاقی خلیات کام آتے ہیں جو کہ عضلات اعصاب اور غدد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے میں ایسے ہی کام آتے ہیں۔ جیسے کہ اینوں ک د دیوار بنانے کے لئے اینوں کو جوڑنے کے لئے گارا سینٹ کام آتا ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ سید بذات خود کو کی فعل سرانجام نہیں دیت اس لئے نظر سید مفرد اعضاء میں الحاقی مادہ سے بنی ہوئی ہڑیاں رباط اور اوتار وغیرہ کو ساکن اعضاء کہا جاتا ہے۔ ان کا کام الحاق بداران پر صرف اتنا ہے کہ سید حیاتی مفرد اعضاء کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر کی کا دارد

زندگی کا دارو مدار صرف حیاتی مفرد اعضاء پر بی ہے کیونکہ ان میں ۔ اگر کی ایک کوبھی نکال دیا جائے تو انسان فورا مکر جاتا ہے مثلاً دل دماغ ' جگر میں ہے کی ایک کوبھی نکال دیا جائے تو انسان فور أمر جاتا ہے۔


ادراگرانسانی جسم میں سے بنیادی مفرد اعضاء میں سے کوئی ہڈی خواہ دہ بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہونکال دی جائے توانسان زندہ رہ سکتا ہے۔

انسانی زندگی کا دارد مدار چونکه حیاتی مفرد اعضاء دل وعضلات ، جگر دغدد اور دماغ داعصاب پر ہے کیونکہ میہ تینوں مفرد اعضاء ہی انسانی جسم کی مشین کو چلانے کے لئے اپناا پنا

كانتذقانون مفرداعضاء

19

-Utestor یا یوں سمجھ لیس کہ انسانی جسم کی مشین میں صرف تمین پرزے ہی کام کررہے ہیں اور ان ہی کی دجہ سے انسانی جسم کی مشین چل رہی ہے اس لئے انسانی جسم کی مشین میں خرابی کی صورت میں ان نتیوں پرزوں میں ہے ہی کوئی نہ کوئی پرزہ خراب ہوگا۔ بلکه يون تصور كرليس كهانساني جسم مين صرف تين بي مفرداعضاء بين اوران بي كي خرابی کی وجہ سے انسانی جسم مختلف امراض وعلامات کا شکار ہوجاتا ہے اوران ہی کی خرابی کو تحك كردين ت تمام امراض وعلامات دور موجات يل-



حیاتی مفرداعضاءتعداد میں تین بی نظرید مفرداعضاء نے بیتحقیق کیا ہے کہ ان تین مفرداعضاء میں تین ہی قشم کی خرابی پیدا ہو کتی ہے۔ (۱) کمی مفردعضو کے قعل میں تیزی پیدا ہوجائے اس کونظریہ مفرد اعضاء میں تجریک كت إلى اس كامطلب بيد بحكم جوكام مفرد عضواعتدال يركرر باتفا-"ووكام ببت زياده كرف لكاب (٢) کسی مفرد عضو کے فعل میں کمی پیدا ہوجائے اس کونظریہ مفرد اعضاء میں تخلیل کہتے ہیں اس کا مطلب بیرہے کہ جو کا مفرداعضاءاعتدال پر کررہا تھا۔اب وہ صحیح نہیں کررہا لين يمل ي كم كام كرد با --

كانتذ قانون مفرداعضاء (۳) کمی مفرد عضو سے فعل میں بالکل ہی کمی آجائے تو اس کونظریہ مفرداعضاء میں تسكين كتح بين اس كامطلب بدب كه جوكام مفرد عضو يهل اعتدال پركرر باتحااب بالكل بى كم كرد با ب-انسانی جسم کے دوحصوں بنیادی مفرداعضاءاور حیاتی مفرداعضاء کابیان ہو گیا۔اب میں انسانی جسم کے تیسر سے اہم حصے خون کے متعلق لکھتا ہوں۔ خون

خون كاانسانى جسم ميں بهت اہم كردار ب جوغذا ہم كھاتے ہيں اس اخلاط بلخ سودا صفرا بنتے ہيں۔ اوران اخلاط كے ملنے بخون بندا ب يعنى خون صرف غذات بندا ب يداخلاط تعداد ميں تين ہيں اورانسانى جسم ميں تين ہى قسم كے حياتى مفر داعضاء ہيں۔ يد تينوں اخلاط تينوں مفر داعضاء كى غذا ہيں جو كہ خون كے ذريع حياتى مفر داعضاء كى يہ ذرب ذرب تك ينتي تيں فظر يد مفر داعضاء نے تحقيق سے يہ ثابت كيا ہے كہ جب يہ تينوں اخلاط مجسم صورت اختيار كرتى ہيں تو يہ حياتى مفر داعضاء بن مار تينوں اخلاط محسم صورت اختيار كرتى ہيں تو يہ حياتى مفر داعضاء بن جاتى تينوں اخلاط محسم صورت اختيار كرتى ہيں تو يہ حياتى مفر داعضاء بن جاتى ہيں ہے تين مار

بيخلط دماغ واعصاب كي غذاب اورجب بيجسم صورت اختيار كرتى بتو دمائ واعصاب بى بغة بي-

:129=(7)


بیخلط قلب دعضلات کی غذا ہے اور جب مید مجسم صورت اختیار کرتی ہے تو قلب وعضلات ہی بنتے ہیں۔ (۳) صفرا:

بیخلط جگردغدد کی غذا ہے اور جب بیجسم صورت اختیار کرتی ہے تو جگردغدد ^{ہی بنخ} یں انسانی جسم میں خون چونکہ ایما مركب ہے جس سے تمام حياتى مفرد اعضاء دمائ

واعصاب فلب وعضلات اورجگر وغدداین این غذا حاصل کرتے ہیں کیونکہ خون میں ہر وقت حیاتی مفرداعضاء کی غذا کمیں یعنی اخلاط موجود رہتی ہیں۔جو کہ غذا ہے پیدا ہوتی رہتی ہی۔خون میں اخلاط کا تناسب ایک جیسانہیں رہتا چونکہ جوغذا ئیں ہم کھاتے ہیں ان سے مخلف فتم كى اخلاط پيدا ہوتى بين غذاؤں كى كمى بيشى بي كوئى خلط كم بنتى بادركوئى خلط بہت زیادہ بنتی ہے اس لئے خون میں کوئی خلط تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ادر کوئی خلط کم ہو جاتی ہےاورکوئی بہت ہی کم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے حیاتی مفرد اعضاء کے افعال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مثلاً کسی مفرد عضو کی غذاخون میں بہت زیادہ ہوگئی۔تو خون وہ غذامفردعضو تک پہنچانے کے لئے اس مفرد عضو کی طرف زیادہ جائے گا۔جس سے وہ مفرد عضو خون ے اپنی غذازیادہ لے کرائے فعل میں تیز ہوجائے گا۔ ای طرح سی مفرد عضو کی غذاخون میں کم ہوجاتی ہے تو خون اس مفرد عضو تک غذا پہنچانے کے لئے کم جائے گاجس ہے وہ مفردعضوابے فعل میں کمزور ہوجائے گا۔ ای طرح اگر سمی مفردعضو کی غذاخون میں بالکل ہی کم ہوجاتی ہے تو اس میں مفرد عضوكافعل بهمي بالكل بي كم بوجائے گا۔ چونکدانسانی زندگی کا دارد مدار صرف حیاتی مفرد اعضاء بربن باس لئے جب ان کے افعال میں کمی یا زیادتی ہوتو انسانی جسم متاثر ہوگا۔اور حیاتی مفرداعضاء کی خرابی کی دجہ ب مختلف فتم کی امراض وعلامات پیدا ہوجا کمیں گی جن کا سیج علاج صرف اسی صورت میں ہوگا کہ مفرداعضاء کے افعال کودرست کردیا جائے۔ جب مفرداعضاء کے افعال کودرست كرديا جائ كاتوتمام امراض وعلامات غائب بوجائي كى-چونکہ مفرداعضاءاین اپنی غذاخون ہے حاصل کرتے ہیں اورخون مفرداعضاء کے ذریعے ذریے ذریے تک پہنچ کران کوغذا مہیا کرتا ہے ای لئے جب بھی مفردعضو کی غذا خون میں زیادہ ہوجائے کی تو خون اس مفردعضو کی طرف زیادہ جائے گا۔جس سے اس مفردعضو کے فعل میں تیزی ہوجائے گی اس کونظر پی مفرد اعضاء میں تحریک کہتے ہیں۔اور

21

كائيذ قانون مفرداعضاء جب سی مفرد عضو کی غذاخون میں کم ہوجائے گی تو خون اس مفرد عضو کی طرف کم جائے گی جس ہے اس مفرد عضو سے فعل میں کمی ہوجائے گی۔ اس کونظریہ مفرد اعضاء میں تحلیل کیتر ہیں۔ای طرح جب کسی مفرد عضو کی غذاخون میں بالکل ہی کم ہوجائے گی توخون اس مفرد عضو کی طرف پالکل ہی کم جائے گا۔جس سے اس مفرد عضو کے فعل میں بالکل ہی کی ہو جائے گی۔اس کونظر یہ مفرداعضاء میں تسکین کہتے ہیں۔ مفرداعضاء کی خرابی کو تھیک کرنے کے لئے یعنی کہ علاج کی صورت میں جس عضو میں خون بالکل ہی کم جاتا ہے یعنی کہ جس عضو میں تسکین ہے۔ وہاں پر تحریک پیدا کر دی جائے گی یعنی کہ خون اس عضو کی طرف زیادہ مقدار میں جانے لگے گا جس کی دجہ ہے تر یک کے مقام پر تحلیل ہوکرتمام امراض وعلامات ختم ہوجا ئیں گی۔ یعنی که جس عضو کی طرف خون بہت زیادہ جار ہاتھا اس عضو بے خون کا ددران ہٹا کر اس عضو كاطرف كرديا كياجس عضو كى طرف خون بالكل بى كم جار باتحا- اس ب دەعضوجو که پہلےاپ فعل میں بہت تیز ہو گیا تھا۔ اب کمزور ہو گیا اور وہ عضو جو کہاپ فعل میں بالكل بى كمزور ہوگيا تھادہ اب اپ فعل ميں تيز ہو گيا اي طرح مفرد اعضاء كى خرابى ، امراض دعلامات پیدا ہوئیں تھیں وہ سب غائب ہوگئیں۔ يمى نظريد مفرداعضاءب-يدقدرني فطرى اوراصولى علاج



خادم قن واطباء حکيم وڈ اکٹر شہباز حسين اعوان کمالی سوہدردی

syed imran sherazi

كاتيذ قانون مفرداعضاء

syed imran sherazi

24


قانون مفرداعضاءاورانساني جسم

انسانی جسم کیا ھے: انسانى جسم ايك قتم كى مثين ب جوكد جادتم ك مفرداعضاء ب لكرنى موتى ب (۱) اعصاب (۲) غدد (۳) عضلات (۳) بدیان کریاں وغیرہ ان کی تر تیب انسانی جسم میں بدے کہ سب سے او پر اعصاب جیں۔ اعصاب کے یتج غدد میں اور غدد کے شیخ عصلات میں اور عصلات کے شیخ بڑیاں میں سارے انسانى جسم مي يجى ترتيب ب- مطلب بيد مواكدانسانى جسم جاد شم كم مفرد اعضاء ب كريناي. and stand to the fee 1 . اعصاب: اعصاب کا کام محسوس کرنا ہے یعنی حس وغیرہ۔ غددانساني جسم كوخوراك مهياكرت بس-٣. عضلات: عصلات انسانى جسم ميں مرتم كى حركت كاكام كرتے ہيں۔ ، مدّيان: بديال انسانى جم مي بنيادكاكام دين بي ان بجم كاذها نجد بنآب-

كائيد قانون مفرداعضاء ان چاروں مفرداعضاء کی دودواقسام ہیں۔ اعصاب (٢) خبردسال اعص (١) كلم رسال اعصار (٢) مالى غدد (1) نالى دارغدو عضلات (٢)غيرارادى عضلات (١) ارادى عضلات بڑیاں (۱) سخت بریاں (۲) کریاں،رباط وغیرہ ان چاروں مفرداعضاء میں سے تین قتم سے مفرداعضاء فعلی ہیں یعنی وہ کام کرتے رج بين ان كوحياتي اعضاء كت بين اورايك مفرد عضوساكن --ساکن عضو ہدیاں جیں۔ ہدیاں چونکہ انسانی جسم میں ساکن جی اس لئے ان کی حركات بحى عضلات كى وجد ، بى بوتى إلى-ان کے علاوہ باقی اعضاء جسم انسانی کے مختلف اعضاء تین قشم کے مفرد اعضاء ب مل کر تر تیب یاتے ہیں مثلا انسان کے معدب میں اعصاب بھی ہیں غدد بھی ہیں اور عضلات بھی ہیں اس طرح دوسرے اعضاء میں بھی اعصاب غد داور عضلات ہیں۔ تفصيل يجصل صفحات مين در دى كى ب-مفرداعضا كابننا انسانی جسم اعصاب -غدد-عضلات اور بريون - فل كرينا ب يدتو معلوم موكيا مكر ب معلوم بین ہوا کہ بیر جاروں مفرد اعضاء کیے بنے میں ان مفرد اعضاء کا بنامخضر بیان کیا

Scanned by CamScanner

26 1. 1. 1 قانون مفرداعضاء طب قديم كى بنيادى كيفيات - اركان - مزاج اور اخلاط پر قائم ب- اب بم کیفیات ارکان مزاج اوراخلاط کی مختصر تشریح کرتے ہیں تا کہ بچھنے میں آسانی رہے۔ (1) كيفيات: كيفيات كانتات كى برش من اجزائ اوليدكى صورت من يائى جاتى بين انهى ير مرغذ ااوردوا كامزاج مقرركيا جاتا ب مثلاً سى چيز كوتر كرم اور سى كوكرم تركها جاتا ب كفيات جارين ارترى - ٢ - مردى - ٣ - فظلى - ٢ - كرى -(٢) اركان: ان كوجار عناصر بهى كماجاتات جب كيفيات مادى صورت اختيار كرتى بی تو ارکان بنتے ہیں۔ان کی تعداد بھی کیفیات کی طرح چار ہوتی ہے۔ یانی ،مٹی ، ہوا، 1ĩ (٣) مزاج: جب اركان لكركى ف من ايى كيفيت بداكر ت بن جوان ك تمام اجزامیں بکسان یائی جاتی میں تو دہ اس شے کامزاج ہوتا ہے۔ مزاج بھی ارکان کی طرح چار ہیں۔ (I), (r), (r), (r)) + (r)) / (r) (٤) اخلاط: چار کیفیات سے چارار کان بنتے ہیں ان ارکان کے ملنے سے چار مزارج كى اشياء _ اغذيد _ اورادويد بنى بين اوران كى كاف سے اخلاط بنتے بين چونك تعداد مي خارين-الاج فل كم برد (١) بلغم-(٢) سودا-(٣) صفرا-(٣) الحاقى ماده (0) مفرد اعضاء: اخلاط جب محسم صورت اختيار كرت بي تومفر داعضاء بن بی اخلاط کی تعداد چونکہ چار ہوتی ہے اس لئے انسانی جسم میں چار ہی قتم کے مفرد اعضاء -012 دماغ واعصاب



Scanned by CamScanner

كائيذ قانون مفرداعضاء (1) دماغ: بيتمام اعصاب كامركز باوريلغم بناتاب. جكو: يدتمام غددكامركز بادر صفرابنا تاب-دل: بيتمام عصلات كامركز ب اورسودا بناتاب بيرتين فعلى اعضاء من جوتار اعصاب غددادر عضلات کے مرکز ہیں اور بید بنی ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان تیوں کومن اعضاءكماجا تاب-عفرداعضاء كى ابميت (١) دماغ-(٢) جكر-(٣) دل اگرانسانی جسم میں سے ان نینوں میں ہے کسی ایک کوبھی نکال دیا جائے یا یہ قدرتی طور پر پھٹ جائیں توانسان کوفورا موت داقع ہوجاتی ہے یعنی ان کے بغیرانسانی جسم بالکل زندہ ہیں رہ سکتا ہیتین اعضاء ہی انسانی جسم کی مشین کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کے ماتحت بی اعصاب غدداور عضلات کام کرتے ہیں اور انسانی جسم کا ہر عضو چونکہ اعصاب غد دادر عضلات سے بی مل کر بنا ہے اس لئے اگر انسانی جسم کے کسی جھے کے اعصاب غددادر عصلات میں کوئی خرابی واقع ہوتو اس کا اثر ان کے مراکز پر بھی لا زمی ہوگا اور اگر دماغ جگر ادردل میں کوئی خرابی داقع ہوتو اس کا اثر جسم کے باقی اعصاب غد دادر عضلات پر بھی لازی ہوگا۔ بیسلسلہ دماغ سے کرایک اعصابی خلیہ تک اور جگرے لے کرایک غدی خلیے تک چھیلا ہوا ہے اگر سے نظام بالکل ٹھیک رہے تو انسان بالکل صحت مند رہتا ہے اور اگر اس سارے نظام میں کی جگہ بھی کوئی خلل واقع ہوجائے تو سارا نظام متاثر ہوجاتا ہے اور مخلف فتم کی امراض دعلامات پیدا ہوجاتی ہیں۔ مفرداعضاءكا آيس مين تعلق تينوں مفرداعصاء كا آپس ميں كبراتعلق ب چونكه انساني جسم مركب ب اعصاب عضلات اور غدد ال الخ انسانى جسم كم تمام اعضاء يس بدر تيب پائى جاتى ب

Scanned by CamScanner

كاتيذ قانون مفرداعضاء 29 اعصاب عضلات اورغددايك دوسر يرجر هم و مثلا الحاقي ماده ای طرح ان کے ایک دورے سے ملنے سے جسم کے اعضاء بنتے ہیں۔ گویا کہ انانی جسم کے مرعضو پر مر پردے پڑھے ہوئے ہیں۔بالکل یہی کیفیت دماغ جگراوردل میں پائی جاتی ہے مثلاً ردوجكر پرده جکر پرده قلب پرده دماغ پرده دماغ برده جگر غدی پرده عضلاتی پرده اعصابی پرده اعصابی پرده عضلاتي يرده مفرداعضاء ككام ہر مفرد عضوابے سے متعلقہ خلط پیدا کر کے انسانی جسم میں جمع رکھتا ہے اگر بی خلط اعتدال پر رہے تو صحت ہے اگر بی خلط اعتدال سے تجاوز کر جائے تو بیکسی نہ کسی بیاری کا باعث بن على --برمفردعضود وطرح كحفل انجام ديتاب-(۱) مشینی فعل (۲) کیمیاوی فعل مشينى فعل: اگر کوئی مفرد عضوایی خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی کررہا ہوتو مفردعضو کار فعل کوشینی فعل کہتے ہیں۔

كائيذ قانون مفرداعضاء

کیمیاوی فعل:

اگر کوئی مفرد عضوا پنی خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع کرتا رہے۔ گر خارج نہ کرنے تواس کو کیمیاوی فعل کہتے ہیں۔


30

اگر کی مفرد عضو کامشینی فعل حد سے تجاوز کر جائے تو یہ بڑی خطرنا ک قتم کی علامات پیدا کر دیتا ہے مثلاً د ماغ کامشینی فعل اگر حد سے تجاوز کر جائے تو د ماغ خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو تیزی سے خارج بھی کرے گا۔ جس سے مریض کوقے اور اسہال آنے شروع ہوجا کیں گے جسم سر دہوجائے گانبض ڈوب جائے گی۔ یعنی کہ ہیفنہ کی علامات پیدا ہوجا کیں گی۔

ای طرح اگر قلب کا کیمیاوی فعل حد سے تجاوز کر جائے تو قلب اپنی خلط سودا پیدا کرنے کے ساتھ جسم میں جمع کرتا رہے گا۔ جس سے پھوڑ سے چنسی سے لے کر کینسر تک خطرناک علامات پیدا ہوجا کیں گی۔

مفرداعضاء کی خرابی ہرمفردعضو میں تین قتم کی خرابی ہو یکتی ہے۔ تحریط: تحریط

وتيد قانون مفرداعضاء 31 لكسح بين مثلا اكرقلب اورعضلات مي تحريك بي تواس كودل وعضلات كي نسبت سي نظريه مفرداعضاء میں عضلاتی تحریک ککھیں گے اس کا مطلب ہیے کہ دل وعضلات چونکہ ایک ہی تم کی خلط سے بین اوران کی غذابھی ایک ہی ہے اورجسم کے تمام عضلات کودل ہی النظرول كرتا باس لئے دل ميں جب تحريك مو كى تو لازى طور يرجسم كے دوسرے عضلات میں بھی تیزی ہو گی یہی قانون دوسرے مفرد اعضاء کے لئے ب مثلا دماغ واعصاب کی تحریک کو اعصابی تحریک اور جگر وغدد کی تجریک کوجگر وغدد کی نسبت سے غدی تحريك كليس 2-. محقر (۱)عضو کے بعل میں خون کی زیادتی اور خشکی سے تیزی آجاتی ہے بیچر یک ہے (۲) خون کی کمی اور حرارت کی زیادتی ہے کی عضو میں ضعف پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ (٣) خون کی انتہائی کی اور تیزی سے کی عضو میں ستی پیدا ہوجاتی ہے بیسکین ہے نقشيرا - اعصالى تحريك كامركز -ALU نقش تمرا 26, مصلاتي تحريك كامركز



كائتذ قانون مفرداعضاء 33 تح يك تحليل ميں تبديل كرنا بى باعث شفاب يجى طريقة كارتمام مفرد اعضاء اورسار بانساني جسم كے لئے ب كيونكه تمام جسم اعصاب غدداورعضلات سے ہی مل کر بنا ہے جن کے مرکز دماغ _ جگراوردل میں بایوں تصور کرلیس کهانسانی جسم میں صرف تین ہی اعضاء لیتن د ماغ جگراوردل اوران ہی کی خرابی ہے ہوشم کی مرض وعلامات پیدا ہوتی ہیں اوران بنی کی خرابی کوٹھیک کر دینے ہے ہر مرض وعلامات ختم ہوجاتی ہیں۔ 260 کائناتی قوانین سے قانون مفر د اعضاء کی تصدیق: كائنات ميں تحريك تحليل اور تسكين متنوں عمل مروفت جارى رہے ہيں۔ کائنات میں تحریك تحلیل اور تسکین کی حالتیر ا- سى جگه ہوا چل ربى بے ير كريك ہے-۲- سی جگہ گرمی جس اور بے چینی ہے سی حلیل ہے۔ ٣-كى جكه بارش مورى ب-يرسكين ب-مذكوره بالانتيون اعمال اكراعتدال يررج بين تو آرام اورسكون باوراكريد يتنوى اعمال اعتدال ب تخاوز كرجا ممين تو مر ف كى زند كى خطر بي ير جاتى ب مثلا اكربارش ضرورت کے مطابق برتی ہے تو خوشی وراحت اور خوشحالی رحمت ہے اس کے برعکس بارش

34 كائيذ قانون مفرداعضاء اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو زندگی کی بقاخطرے میں پڑ کرزحمت محسوں ہوتی ہے۔ ای طرح ہوااعتدال پر چلتی ہےتو ہر شے اپنے کام میں مصروف ادررواں دواں ہے اگرہوا بند ہوجائے توجس اور بے چینی پیدا کرتی ہے اور آندھی کی صورت میں ہر شے کی زندگى خطرے يى پر جاتى ہے۔ ای طرح حرارت اعتدال پر رہے تو تحلیل کاعمل درست رہتا ہے اور اگر حرارت انتہائی کم ہوجائے تو زندگی کی ہرتم کی نشودنما بند ہوجاتی ہے اور اگر حرارت زیادہ ہوجائے تو ہر شم کی زندگی میں تحلیل زیادہ ہونے سے موت داقع ہونے کا خطرہ پیدا ہوجا تا ہے۔ کا سَنات کا نظام زندگی قائم رکھنے کے لئے قدرت مذکورہ افعال اعتدال پر یوں رکھتی ہے کہ جب بخت گرمی پڑتی ہے تو بارش آ جاتی ہے جس سے خلیل کاعمل رک جاتا ہے اور تسکین ہوجاتی ہے۔ جب بارش سے ہرجگہ جل تھل ہوجاتی ہے تو تیز ہوا چل پڑتی ہےاور پانى ختك موجاتا ب- يرتجريك ب يعنى تسكين كوتجريك ميں تبديل كرديا جاتا ہے-انساني جسم كائنات كابى ايك حصه ب نظر بدمفرداعضاء کی تحقیق بد ہے کہ انسانی جسم کا سَنات کا بھی ایک حصہ ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انسانی جسم بھی ایک کا تنات ہی ہے اس لئے جو قانون کا تنات میں چلتے ہیں وہی قوانین انسانی جسم میں چلتے ہیں اس لئے انسانی جسم میں بھی تحریک تحلیل اور تسکین کی تینوں صورتين وتوع يذير بوتى رہتى ہيں۔ ا-جب کسی حیاتی مفرد عضو میں خون کی آمدزیا دہ شروع ہوجاتی ہے تو اس میں تحریک كاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ ۲ - لیکن جب یہی خون جس مفرد عضو سے آتا ہے اس میں تخلیل ہو جاتی ہے-۳-اوروه مفرد عضوجس سے خون جاچکا ہے اس میں تسکین ہوجاتی ہے مفرد اعضاء کی ان تبدیلیوں کونقشہ بزائے مجھیں.

- 22	•		
		- 62	
-	-		

جسم میں رطوبت یعنی بلغم کی زیادتی Ė١, فليل جر م می حرارت یعنی صفرا ، کی زیاتی جسم من رياح يعنى سوداكى زيادتى آسان تحريک بخليل تسکين النظلى بمفرداعضا وش تركي بدا بوتى ب-٢ _ كرى _ مفرداعضاء م تحليل بدا موتى --٣ _ ترى ب مفرداعضاء مي تسكين پدا ہوتى ب-بيقصوركرليس كدتمام انساني جسم بين صرف تيمن حياتي مفرد اعضاءدل جوكه تمام عضلات كامركز بيجكر جوكدتمام غددكامركز باوردماغ جوكدتمام اعصاب كامركزب-ر مشمل باوران متنوں حیاتی مفرد اعضاء میں تین قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی میں جو کہ تمام امراض وعلامات كاباعث بنتى إن-53

خطی کری سے ختم ہوتی ہے۔ کری تری سے ختم ہوتی ہے اور تری خطی سے ختم ہوتی

كائيز قانون مفرداعضاء 36 جس مفرد عضو میں تحریک یعنی خشکی ہوگی اس میں تحلیل یعنی گرمی پیدا کر دی جائے گ جس تحريك يعنى خشكى ختم ہو جائے گى جس مفرد عضو ميں تحليل يعنى گرى ہو گى اس ميں تسكين يعنى ترى پيدا كردى جائے گى جس تحليل يعنى كرى ختم ہوجائے گى اسى طرح جس مفرد عضو میں تسکین یعنی تری ہوگی اس میں تحریک یعنی خشکی پیدا کردی جائے گی۔جس سے تسكين يعنى ترى ختم ہوجائے گا۔ (1)كىزيادتى (3) (2) ى ز يادتى

Scanned by CamScanner

كاتيذ قانون مفرداعضاء

مفرد اعضاء کا ایک دوسر ے سے تعلق:

فطرت کا یہ سلمہ اصول ہے کہ بھی کوئی کیفیت مفرز نہیں پائی جاتی جیے گری یا سردی کبھی تنہا نہیں پائی جاتیں کبھی گرمی تری ہوتی ہے تو کبھی گرمی خطی ایے ہی کبھی سردی تری ہوتی ہے اور کبھی سردی خطکی یہی صورت مفرد اعضاء میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ مفرد اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ گہر اتعلق ہے مثلاً دماغ اعصابی ہے اس پرغدی اور عضلاتی پردے چڑ ھے ہوتے ہیں اور جگر جو کہ غدی ہے اس پرعضلاتی اور اعصابی پردے چڑ ھے ہوتے ہیں اور دل جو کہ عضلاتی ہے اس پرغدی اور اعصابی پردے چڑھے ہوئے ہیں اس طرح دماغ کا تعلق اس کے غدی اور عضلاتی پردوں کی وجہ سایک طرف جگر کے ساتھ اور دوسری طرف دل کے ساتھ قائم ہے۔

> مفرد اعضاء کی انفرادی صورت: ۱- دماغ اعصاب اعصاب اعصاب ۲-جگر غدی عفرات عضلاتی ۳- دل

مغرد اعضاء کے تعلق کی باہمی صورتیں: یہ الت ال وقت پائی جاتی ہے جب کی ایک مفرد عفو کا تعلق دوسرے مفرد عفو ہوتا ہے مثلا ارجب دماغ کا تعلق جگر ہوگا تو ال وقت جو حالت پائی جائے گی دہ یہ ہوگ۔ دماغ جگر نتیجہ اعصابی + غدی اعصابی غدی ہوگا تو اعصابی + عفد کا تعلق دل ہوگا تو دماغ دل نتیجہ اعصابی + عضلاتی اعصابی عضلاتی

كائتيذ قانون مفرداعشاء


۲_جب دل کاتعلق د ماغ ہے ہوگا تو بیصورت ہوگی۔ دل + دماغ ^{بت}يجه عضلاتي+ اعصابي عضلاتي اعصابي بالكل اى طرح جب دل كانعلق جكر ، وكاتو-دل + جگر نتیجه عضلاتي+ غدى عضلاتي غدى ۳_ای طرح جب جگر کاتعلق دل کے ساتھ ہوتو بیصورت ہوگی۔ جكر + دل نتيجه غدى + عضلاتى غدى عضلاتى اى طرح جب جكر كاتعلق د ماغ ب موكا تو جكر + دماغ نتيجه غدى + اعصابي غدى اعصابي یہ مفرد اعضاء کے تعلق کے آپس میں صورتیں ہیں۔ بیکمل ہو کر مجموعی طور پر چھ صورتين اختيار كرجاتي بي-(۱) اعصابی غدی (۲) اعصابی عضلاتی (۳) عضلاتی اعصابی (٣) عضلاتي غدى (٥) غدى عضلاتي (٢) غدى اعصابي ان چیتر یکوں میں تین تر یکیں مشینی اور تین تر یکیں کیمیادی ہیں۔ مشيني تحريكس

بيد ماغ داعصاب كي شيني تحر ،

38

& تد قانون مفرداعضاء -

يضلاتي غدى:



غدى اعصابى:

39

ابمنقطه

چونکہ مذکورہ تحریکوں میں پہلا لفظ مشینی اور اگلا لفظ کیمیاوی کہلاتا ہے۔ اور کیمیاوی تحریک ہی مشینی تحریکوں میں صحت کی طرف جاتی ہے اس لئے ہر عضو کی تحریک کے بعد جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں گے انہی کو بڑھانا چاہتے کہ اس میں شفا ہے کیونکہ جب بھی کوئی تحریک این انتہا کو پیچی ہودہ پھر بدلنا شروع ہوجاتی ہے جیسے حروج کوزوال ہوتا ہے۔ مثلا اعصابی عضلاتی سے عضلاتی اعصابی عندلاتی غدی سے غدی عضلاتی

كائير قانون مفرداعضاء

کیمیاوی تحریکیں

40

(1) عضلاتی اعصابی: بیقلب دعضلات کی کیمیاوی تحریک ہے۔

(٣) غدى عضلاتى:

ی چگردغدد کی کیمیادی تحریک ہے۔ (۳) اعصاب ی غدی: پید ماغ داعصاب کی کیمیادی تحریک ہے۔ پیر کیمیادی تحریکوں میں پہلالفظ مقام تحریک اورا گلالفظ مقام تحلیل ہوتا ہے مثلاً

(1) عضلاتی اعصابی: اس تحریک میں قلب دعفنلات میں کیمیاوی تحریک دماغ داعصاب میں تحلیل اور جگروغدد میں تسکین ہوتی ہم ریض سے جسم میں خلط سودا کا اجتماع ہوتا ہے۔ مریض کے منہ کاذا نقد ترش ہوتا ہے۔ (۲) غدی عضلاتی:

اس تجریک میں جگروغدد کے مقام پر کیمیادی تحریک قلب وعضلات کے مقام پر تحلیل اور دماغ داعصاب کے مقام پر تسکین ہوتی ہے۔مریض کے جسم میں خلط صفرا کا اجتماع ہوتا ہے مریض کے منہ کاذا لفتہ جر پراہوتا ہے۔ای طرح

اعصابی غدی: اس تحريك مين دماغ واعصاب مين كيمياوى تحريك جكر وغدد مي تحليل اور قلب د مشلات میں تسکین ہوتی ہے۔مریض کے جسم میں خلط ملخم کا اجتماع ہوتا ہے۔مریض کے

مند كاذا كقد شيري موتا ہے۔ کیمیادی تحريكوں میں چونكد اخلاط جسم میں جع موكر تكليف كا باعث بنتی ہیں اس لئے ان تحريكوں میں جع شدہ اخلاط كوجسم ے خارج كرنے كے لئے كيميادی تحريك كوشینی تحريك میں تبديل كرنا پڑتا ہے تاكہ جع شدہ فالتو اخلاط جسم ے خارج موجا كيں۔ اس ليے عضلاتى اعصابى كيميادى تحريك كوعضلاتى غدى مشينی تحريك ميں تبديل كيا جاتا ہے جس ے فاضل سودا جسم ے خارج موکر حصرت ہوجاتى ہے۔ ای طرح غدى عضلاتى كيميادى تحريك كوغدى اعصابى مشينی تحريك ميں تبديل كيا جاتا ہے جس ے فاضل سودا جسم ے خارج موکر حصرت موجاتى ہے۔ ای طرح غدى عضلاتى كيميادى تحريك كوغدى اعصابى مشينى تحريك ميں تبديل كيا ماتا ہے جس ے فاضل سفراجسم ے خارج موکر محدى اعصابى مشينی تحريك ميں تبديل كيا ارض وعلامات كا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ دياجاتا ہے جس ے جسم ميں جنع شدہ فالتو بلغ مارج ہوجاتى ہے اور مريض شفايا بہ وجاتا ہے۔



syed imran sherazi

كائيذ قانون مفرداعضاء

باب نمبر ۳:

مفرداعضاءاور مفرداعضاء كي تحريكو ا حمزاج

مفرد اعضاء کی پیدان خظى ىردى گرى 57 (۱) كيفيات مخى 301 Ĵĩ يانى (٢) اركان فتك 20 31 で)~(ア) الحاقى اده مودا صفراء (٣) اخلاط ہٹیاں قلب وعضلات دماغ واعصاب جكروغدد (٥)مفرداعضاء فتك 2 31 2 (۲) حیاتی مفرداعضاء کامزان ول جر · داغ (۷) حياتي مفرد (٨) مفرد تحريكي اعصابى تحريك كامركز غدى تحريك كامركز عضلاتى تحريك كامركز مركب تحريكين 21% تريک דלא اعصابي غدى غدى (١) اعصابي اعصابي عضلاتي 17 عضلاتي (٢) اعصالي غدى عصلاتي گرمخنگ عضلاتي (٣)غدى Zyr, غدى اعصابي اعصابي (٣)غدى

كائيد قانون مفرداعضاء 43 (۵)عضلاتي غدى عضلاتي غدى فتكركم (٢)عضلاتي عضلاتي اعصابي اعصانى فتك مرد تح يكول كالتحج ترتيب اورمزاج (١)اعصابي عضلاتي 17 (٢)عضلاتي اعصابي فتكرد (۳)عضلاتی غدی فتكركم (٣)غدى عضلاتي گرمختک ins (۵)غدى اعصابى زكرم (٢) اعصابي غذي یہ مجموعی طور پر چھتر کیس بن جاتی ہیں ان میں سے چارتر کیس-(۱)عضلاتی غدی (٢) غدى عضلاتى (٣) غدى اعصابى (٣) اعصابى غدى تو مزاج كے لحاط ب بالكل اصولى معلوم ہوتى ہيں _ گرد وتحريكوں ، اعصابى عضلاتى اور عضلاتى اعصابى ميں مزاج اصولى معلوم نہیں ہوتے کیونکہ طالب علموں کے ذہنوں میں سی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے مزاج اس طرح موفے جا ہی۔ (١) اعصابي عضلاتي (ترخشك) اور عضلاتي اعصابي (خشك تر) كيونكه مفرد اعضاءكو ايك دوس كرسا يطبق دين ، يي نتجه برآ مد مونا جاب-یہاں ایک نقطہ ہے جس سے عدم واقفیت کی وجہ سے میہ سوال ذہن میں پیدا ہو کر پریشانی کا باعث بنآ ہے اور مزاج اصولی اور صحیح معلوم نہیں ہوتے اس لئے میں نے اس کتاب میں اس کی وضاحت کرنی مناسب سمجھی ہے تا کہ نظرید مفرداعضاء کے شائفتین کواور طالب علموں کو کسی قتم کی پر بیثانی کا سامنا کئے بغیر نظریہ مفرد اعضاء کی سجھ آ سکے جن تحریکوں

Scanned by CamScanner

می اختلاف نظر آتاب وه صرف دو بی-

كائيذ قانون مفرداعضاء

(۱)اعصابی عضلاتی تحریک (۲)عضلاتی اعصابی تحریک

اعصابي عضلاتي تحريك

ید دماغ داعصاب کی شینی تحریک ہے دماغ داعصاب کا انفرادی مزان تر ہے اوران کی پیدائش خلط بلخم سے ہوتی ہے چونکہ شینی تحریک میں خلط پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی تیزی سے خارج بھی ہوتی ہے اعصابی عضلاتی شدید تحریک میں تے ادر اسہال بہت زیادہ رقیق یعنی پانی کی طرح آتے ہیں چونکہ کیفیت تری کی یہ خاصیت ہے کہ دہ سردی میں تبدیل ہوجاتی ہے اس لئے جب بیا پٹی انتہا پر پنچتی ہو پھر سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے - جیسے ایک شخص زیادہ دریتک بارش میں بھیکتار ہے یا پانی میں نہا تار ہے تو ا

بالكل اى طرح جب اعصابى عضلاتى تحريك مي ببت زياده ق اوردست آت بي تو مريض كادل ذوبتا ب دل كاذوبناترى كى زيادتى كوظا مركرتا ب اور بحر مريض كاجم سرد موتا جاتا بيعنى ترى سردى مين تبديل موجاتى ب اورا گراس حالت مي مناسب علان ند كيا جائة سردى كى زيادتى ب موت واقع موجاتى ب اس وضاحت بيد واضح مو جاتا ب كداعصابى عضلاتى تحريك كامزان (ترخشك) تسليم كياجانا مناسب نيس بلكداعصابى عضلاتى تحريك كامزان (ترسرد) تسليم كياجاتا ب يمي مناسب ب اس لي اعصابى عضلاتى تحريك كامزان تر سرد) تسليم كياجاتا ب يمي مناسب ب اس لي اعصابى عضلاتى تحريك كامزان تر سرد) تسليم كياجاتا ب يمي مناسب ب اس لي اعصابى عضلاتى تحريك كامزان تر سرداني التيم كياجاتا ب يمي مناسب ب اس لي اعصابى عضلاتى تحريك كامزان تر سرد التيم كياجاتا ب يمي مناسب ب اس لي اعصابى عضلاتى تحريك كامزان تر سرد التي اعصابى تحريك


یہ قلب وعضلات کی کیمیادی تحریک ہے قلب وعضلات کا انفرادی مزاج خشک ہے اور بی خلط سودا سے پیدا ہوئی ہے چونکہ عضلاتی اعصابی تحریک کے بعد آتی ہے اور اس میں قلب وعضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوتا ہے۔

كائيذ قانون مفرداعضاء

اس لیے طالب علم کوذہن میں بید سوال پیدا ہوجاتا ہے کہ اس کا مزان تو (ختک تر) ہونا چا ہے اس لیے جیسا کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ تری جب اپنی انتہا پر پیچی ہوت وہ سردی میں تبدیل ہوجاتی ہے چونکہ اعصابی عضلاتی تح یک میں تری سردی میں تبدیل ہونا شروع ہوجاتی ہے اس لیے اعصابی عضلاتی تح یک سے عضلاتی اعصابی تح یک میں تبدیل ہونے تک تری سردی میں تبدیل ہوجاتی ہے اس لیے عضلاتی اعصابی تح یک مزان ختک ترکی بجائے (ختک سرد) تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عضلاتی اعصابی تح کہ مزان انفرادی صورت میں ختک ہے اور جب عضلاتی اعصابی تح یک میں خشکی تری سے پیدا ہوئی۔ سردی کے ساتھ لی ہوتو مزان ختک سرد کی جاتا ہے۔ کیونکہ عضلات کا مزان انفرادی صورت میں ختک ہے اور جب عضلاتی اعصابی تح کہ میں خشکی تری سے پیدا ہوئی۔ سردی کے ساتھ لی

دنیا میں کوئی بھی ایس شے نہیں جو کہ تر خٹک یا خٹک تر ہو۔ کیونکہ جب تری ہوگی تو پھر خٹکی نہیں رہے گی اور جب خٹکی ہوگی تو پھر تری نہیں رہے گی اور نہ ہی تری خٹکی اور خٹکی تری انٹھی رہ کتی ہیں۔ یا درکھیں

کیفیات تری گرمی سردی۔ خطکی ایک دوسری میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں مثلاً تری سے سردی۔ سردی نے خطکی خطکی سے گرمی اور گرمی سے تری کیفیات کا ایک دوسری میں تبدیل ہونا ہے اس نقشہ سے سمجھیں۔



ياب نهبر ٤:

syed imran sherazi تشخيص امراض بمطابق قانون مفرداعضاء

46

نبض کی تعریف: نبض شریانوں کی اس حرکت کا نام ہے جودل کے سکڑنے اور پھیلنے سے شریانوں میں خون پھیکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بیح کت جسم کی تمام شریانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ مگرنبض سے مراد وہ مخصوص شریا نیں میں جو بعض مقامات پر نمایاں ہوتی میں اور جن کی حرکت کو انگلیوں ہے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کلائی کی شریان ۔ کنیٹی کی شریان ۔ شختے کی شریان وغیرہ ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں کلائی کی شریان ہے اس نے بض سے مراد کلائی کی شریان کی حرکت اور حالت کو محسوس کرنا ہے شریانوں کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے اور دل مفر داعضاء سے بنا ہوا ہے اس لئے دل میں جس قشم کی حرکات اور حالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہی شریانوں میں بھی خاہر ہوتے ہیں اس لئے نبض کو دیکھ کر مفر داعضاء کی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مفردنبض سے مقام تحریک تلاش کرنانظریہ مفرداعضاء میں تین قتم کی مفردنبضیں میں جو کہ درج ذیل میں۔ عضلاتی نبض

نبض يتتخص

کلائی پر آہتہ سے انگلیاں رکھیں اگر قرعہ نبض او پر ہی انگلیوں کے پوروں کوزور سے تحوكراكا رباجو اورنبض طويل ادربلندادر تيز موتوبينجن نظريه مفرداعضاء ميس عضلاتي نبض كبلاتى باورجسم مين فتلى وسوداويت كااظهاركرتى ب-غدى نبض

اگر قرعه نبض برانگلیاں رکھ کرتھوڑا سا دبانے پرمحسوں ہواور نبض نہ تو زیادہ طویل ہواور نہ ہی زیادہ صغیر ہوتو ایسی نبض نظریہ مفر داعضاء میں غدی نبض کہلاتی ہےاور جسم میں حرارت دصفراویت کااظہار کرتی ہے۔ اعصالی نبض

اگر قرع نبض نبض پرانگلیاں رکھ کر کافی دبانے پر یا کلائی کی ہڑی کے بالک آخر پر محسوس ہو یا معمولی سامحسوس ہوتو ایسی نبض نظر بیہ مفرد اعضاء میں اعصابی نبض کہلاتی ہے اور

48 كائيذ قانون مفرداعضاء جسم میں بلغم ورطوبت کا اظہار کرتی ہے۔ مفردنبض بيجانخ كاآسان طريقه انسانى جسم ميں مفرداعضاء كى ترتيب بير ب كەسب سے او پراعصاب بيں اعصاب کے پنچے غدداور غدد کے پنچ عضلات ہیں۔اب نبض دیکھتے وقت آپ نبض میں انگی تر تیب الثي كردين مثلا (۱) اعصاب جسم میں سب سے او پر ہیں اعصابی نبض سب سے نیچے ہوگی۔ (٢) غددجسم میں اعصاب سے پنچے لیتن دوسر نے نبس میں خدی نبض اعصابی نبض سے اور یعنی درمیان میں آجائے گی۔ (۳) عضلات جسم میں ترتیب کے لحاظ سے تیسر یے نمبر پر یعنی اعصاب اور غدد سے بنچے ہیں اس لئے عضلاتی نبض غدی نبض ہے او پر یعنی اعصابی اور غدی دونوں نبصوں سے او پر آجائے گی۔ (١) بلندنيض كوعضلاتي نبض كبت بي-(٢) معتدل نبض كوغدى نبض كهت إي-(٣) يت نبض كواعصا بي نبض كمت بي-عصلاتی نبض سب سے او برغدی نبض درمیان میں اور اعصابی نبض سب سے بنچ محسوس ہوگی۔ مركب نبض اعصابى عضلاتي نبض اعصابی نبض چونکہ پت ہوتی ہے اور عضلاتی نبض بلنداس لئے جب اعصاب کا تعلق عضلات ب بوتا ب تواس وقت نبض عضلات تح تعلق كى وجه ب قدر ب اوير آجاتي

ہے۔اورایک سے دوانگلیوں تک محسوس ہوتی ہے۔ یہ نف قدرے تیز اور موٹائی زیادہ ہوتی ہے جیسے پانی سے بھری ہوئی ہو جو کہ عمولی ساد باؤد بنے سے دب جاتی ہے۔

عضلاتي اعصابي نبض:

جب عضلات کاتعلق اعصاب سے ہوتا ہے تو یہ نبض رفتار میں تیز اورریا ت پر ہوتی ہے اعصابی تعلق کی وجہ سے جسمی طور پرقد رے موٹی لیکن حرکت میں تیز ہوتی ہے ہاتھ رکھتے ہی تین الگلیوں تک محسوس ہوتی ہے۔

عضلاتی غدی نبض: ید خالص عضلاتی نبض ہاس میں عضلات کا تعلق اعصاب سے من کر جگر دغدد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ نبض حرکت میں انتہائی تیز جسمی طور پر پتلی اور بار یک ہوتی ہے۔ دبانے پر بخت تنی ہوئی محسوں ہوتی ہے ادھر ادھر حرکت نہیں کر سکتی۔ انگلیاں رکھتے ہی چار انگیوں سے بھی کراس کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

غدى عضلاتى نبضى: جب جگروغددكاتعلق عضلات بوجاتا بوينغ عضلاتى غدى كى نبت كرائى مى موجاتى ب- چونكداس نبض ميں غددكاتعلق عضلات بموتا ب- اس لئے بينغ حركت ميں قدرت تيز موتى ب- عضلاتى غدى كى نبت معمولى ساد باؤ دينے سے محسول موتى ب-

غدی اعصابی نبض:

اس بض میں غدد کا تعلق عضلات ہے جث کراعصاب سے ہوجاتا ہے۔ بی خالص غدی نیض ہے بی نیض بار یک اور حرکت میں ست چھونے سے بالکل درمیان میں غدی معملاتی نیض کی نسبت پست محسوس ہوتی ہے۔

كائيذ قانون مفرداعضاء

اعضابي غدي چونکہ اعصابی نبض سب سے پنچ اور غدی نبض اس کے اور ہوتی ہے۔اس لئے جب اعصاب كالعلق غدد ، وتاب تويين كرائى من مونى كى دجه ايك انكلى يردباد دینے سے محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبض پر جاروں انگلیاں رکھی جائيس اور دباؤنه ديا جائة وايسامحسوس موتاب جيے نبض عضلاتي مومكر جب معمولي سادباؤ دياجائ تونبض فورافيحدب جاتى باوريت معلوم موتى ب-

50

Endating David Continues

(نوٹ) تشخيص کرتے وقت صرف نبض کو ہی کافی نہ مجھیں بلکہ قارورہ منہ کا ذا کفنہ جسمانی اخراجات کے رنگوں اور مریض کے چہرے کی رنگت اور علامات وغیرہ کواچھی طرح دیکھ کر بتيجه يريبنجي تاكه يحتم كأعلطي كاامكان ندرب-مفرو المحالية المالية المحالية محالية المحالية المحالية محالية محالية محالية محالية محالية المحالية محالية المحالية محالية مححالية مححاليية مححاليية مححاليية مححاليية مححاليية مححا

Julia Hindelic galeralling اعصابی قارورہ: اكر يبيثاب كارتك يانى كىطر حسفيد موتو اعصابي تحريك موكى جوانسانى جسم مي بلغم ورطويات كوظامركرتى ---Barto B. Simeral market by the غدى قارورە: اكر پيتاب كارتك زرد بوتوغدى تحريك بوكى جوكدانسانى جسم ميں حرارت اور صفراكو ظاہر کرتی ہے۔ HOLE THE PARTY عضلاتي قاروره: اكر بيثاب كارتك سرخ ياساه موتو عضلاتى تحريك موكى جوكدانسانى جم م ينتظى وتيزابيت كوظا بركرتى --

كاتيذ قانون مغرداعضاء

م کر (۱) اگر قاروره سفیدزردی مائل ہولیعنی سفیدزیا دہ اورزرد کم ہوتو اعصابی غدی تحریک ہے۔ (٢) اگر قاروره سفيد ياني كى طرح يا بلكى ي نيلا جث التي جوت جوتوايدا قاروره اعصابى عضلاتي تحريك ميں ہوتا ہے۔ (٣) اگر پیشاب میں سیابی زیادہ اور سرخی کم ہوتو ایسا قارورہ عضلاتی اعصابی تحریک ک نثاندى كرتاب-(٣) اگر قاروره می سرخی زیاده اور زردی کم جوتو ایسا قاروره عضلاتی غدی تحریک کا جوتا (۵) اگر قاروره می زردی زیاده اورسرخی کم موتواییا قاروره غدی عضلاتی تحریک کی نشاند بی -cts (٢) اگرقارور وزردسفیدی مائل بوتوغدی اعصابی تحریک کی نشاند بی کرتا ہے۔ ذاينق سيشخص (١) اگر منه کاذا لقه بیشها بوتو اعصابی غدی تر یک بوتی ہے۔ (٢) اگرمنه کاذا نقته پیمیکاد کسیلا ہوتو اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ (٣) اگرمند كاذا تقدرش بوتو عضلاتى اعصابى تحريك بوتى --(٣) اگرمنه کاذا لفته کردا بوتو عضلاتی غدی تر یک بوتی ہے۔ (٥) اگرمند کاذا تقدح يرا بوتوغدى عضلاتي تحريك بوتى --(٢) اكرمنه كاذا تقدمكي بوتوغدى اعصابي تريك بوتى --انسانی جسم کی رنگت سے شخیص (١) اكرانسان كاچره مونث _ زبان اور آتكموں كى ركمت سفيد موتو اعصابي تحريك موكى -

51

52 كائيذ قانون مفرداعضاء (۲) اگرانسان کا چہرہ ہونٹ زبان اور آنکھوں کی رنگت سرخ یا سیاہ ہوتو عضلاتی تحریک ہو (۳)اگرانسان کاچېره ہونٹ زبان اور آنکھوں کی رنگت زردہوتو غدی تحریک ہوگی. دردوں سے شخص (۱) دردآ رام دسکون کی حالت میں نہ ہوں لیکن ذراح حرکت سے دردشروع ہوجائے توبیہ غدى فريك كااظهار كرتا --(٢) درد حركت كرف مح ما فتم موجا تا موتو اعصابي تحريك كااظهار كرتاب-(٣) آرام وسکون یا حرکت بورد نه وبلکه مقام درد پر دباو پر نے سے درد موتو سی عضلاتی تحريك كالظماركرتا ب-فضلات سے شخص (١) اسہال رقیق رنگت میں سفید آرہے ہوں تو اعصابی تحریک ہے۔ (٢) پیش ہوتو غدی قریک ہے۔ ATT ARTIGENERAL (٣) قبض ہوتو عضلاتی تحریک ہے۔ Harris Barris and Barris MAR SALES TON (١) سفيدرتكت اعصابي تريك-Colles and Exception (a) and (Chester Laborate) (٢) زردر کت غدی تر یک-(٣) سرخ يا غمالى رتكت عصلاتى تحريبmainternet. خون سے شخیص خون كى صورت دوسرى رطوبات بي مخلف موتى ب (١) اعصابی تر يك ميں جب جسم ميں رطوبات كى كثرت ہوتى بو خون مى نيس آتا۔

Scanned by CamScanner

كاتيذ قانون مفرداعضاء 53 (٢) غدى تحريك مي خون تكليف تحور القور التاب-(٣)عضلاتی تحریک میں شریانیں بہت جاتی ہیں اورخون کثرت ۔ آتا ہے۔ عصلاتى تحريك بي خون كاجسم في مختلف حصول مثلاً ناك ت تسير كى صورت میں۔مثانہ سے پیشاب کے ساتھ مل کراور پھیڑوں سے بلغم کے ساتھ ادر معدہ سے خونی تے کی صورت میں اخراج ہوسکتا ہے۔ and the second second 1 S. S. S. S. S. 1.62

كائتذ قانون مفرداعضاء

باب نمبره: syed imran sherazi امراض دعلامات بمطابق قانون مفرداعضاء

54

مرض اورعلامت ميں فرق

رض کی تعريف: مفرداعضاء کی خرابيوں کو چاہوه مشينى ہوں -يا كيميادى - امراض كہاجاتا ہے-

علامات کی تعریف: ^{علامات} ایےنثانات کو کہتے ہیں۔ جن ے حالت مرض کا پ^یہ چتا ہے۔ اعصا **بی عضلاتی (ترسرد) تحریک کی علامات** سرکی علامات

صداغ بلغی مداع بارد - دردال فظلت کی نیند سکته اسیان دضعف دماغ -صرع دماغی - بے ہوشی قبل از دفت بالوں کا سفید ہوتا - با کیس طرف کا فالج لقوہ - باؤلہ پن - چکر آتا - بالوں کا گرنا - زکام - کیرا بلغم کا کثرت سے آتا -ہر تکھوں کی علامات

آشوب چشم _ آنکھوں سے پانی آنا۔ پھولا - ضعف بھر - شب کوری - سفید موتیا-

Scanned by CamScanner

اندحايان-

كان كى علامات کان درد۔کان کے کیڑے۔کان بہنا۔بیرہ پن مونٹوں کی علامات: يونوں كايزامونا۔ ناك كي علامات: ناك ب يانى آنا- چينكوں كى كثرت- زكام-منه اور گئے کی علامات: مند المسفيد جمال درال ببنا - كردن من بل يزنا - مشكل - تكنا كلو -زبان کی علامات: زبان يرسفيد جمال _كلت _زبان كابد هجانافالح _زبان كابند موجانا _ دانتوں کی علامات: وانتون كادرد_دانتون كالمتا_دانتون كاكرنا-حلق مری اور نرخرہ کی علامات: كواكرنا-استرخا المرى-خناز يكلبر-Arrive. هیپیشژوں کی علامات: بلغى دمه بلغى كمانى - كالى كمانى - پيپيروں كااسترخا -دل کی علامات: دل كابو جوانا _ ضعف قلب دل كا و وبنا - دل كا حركت كم كرما - لو بلد يريشر - دل ك 7كت كابنديونا_

55

كائتذ قانون مفرداعضاء

and the good of All the int

Bassing Beller

یستانوں کی علامات:

دوده کی زیادتی _ بستانوں کابر هجانا _ بستانوں کالٹک جانا _

معدہ اور آنتوں کی علامات:

معدہ میں گڑ گڑ ہونا۔ پرانے اسہال معدہ کا ٹھنڈا ہوجانا۔ قے دست - ہیف، عطاش بدہضمی مسلسل قے کھانا کھانے کے فور ابعد پاخانہ کی حاجت استسقالحمی دردمعدہ وامعاً ۔ سنگرینی ۔ حاملہ کی متلی اور قے مٹی کوئلہ کھانے کی خواہش ۔ بغیر ارادے کے پاخانہ نکل جانا۔

جگر وطحال کی علامات: جگر کابر هجانا - طحال کابر هجانا - ضعف جگرخون کی کی -مقعد کی علامات: استر خا المقعد

گرد، ومثانه کی علامات: ضعف گرده وکلید سل الول بستر پیشاب کردینا - کثرت بول - پیشاب کاپانی ک

طرح سفیدآنا۔ خصیہ کی علامات:

ضعف خصیہ۔ دردخصیہ۔ مادہ منوبیکار قیق بنتا خصیوں کالنگنا۔فتق۔جراثیم منوبیکا کم پایالکل نہ ہوتا۔

عضو تناسل کی علامات: عضوتاس کاببت البااورموتا ہونا لیکن انتشار کا کم ہوتا - جریان - تامردی -

كاتيذ قانون مفرداعصاء 57 نسوانی علامات: بندش حيض _ استرخا الرحم _ ليكوريا _ اسقاط حمل - ياكل بن - كوئ ي - بهر ي بعيك يج بدامونابا نجه بن - لاكيان بى لاكيان بدامونا-In the allerhow. ہچوں کی علامات: بچوں كاسوكر ا_كساح-دست كى رہنا-بد بخمى ڈ بداطفال - مبارى جوڑوں کی علامات: S. Ed. Event جوڑوں کے درد-بائین طرف کی عرق النساء-اعصابی دردیں -وغيره-جلد کی علامات: چیک - خسره - خنازیر - سفید بعنیان - احساسات کی شدت برص برشم - بخار -تمام ایسے بخارجن میں پیشاب کارنگ سفید ہو بحرقہ دماغیand the states Constant Constant گهرائی میں زیادہ جم میں موٹی حرکت میں ست The Real Astronomy تشتحيصي علامات رطوبات کا کثرت سے اخراج پیشاب کی زیادتی اور سفیدرنگ کا ہونا۔ دل کا ڈوبنا۔ نیند کی کثرت _ ناخنوں کا سفید ہوتا - بلغم وریشہ کا کثرت - جسم میں رطوبات کی کثرت _ منه کا تحريب الم وما تواعصاب ذائقه يصكاباكيسلار بناester in اعساني عضلاتي تحريك Re-John Millelantas white war and the Tris ? جر وغد د دل وعضلات SULLEY LAN

Scanned by CamScanner

كائيز قانون مفرداعضاء

عضلاتی اعصابی (خشک سرد) تحریک کی علامات

58

سر کی علامات:

صداع سوداوی مداع دونی صداع دودی صداع ریجی صداع سعف دماغی درد سرمزمن صداع حمامی - سرسام سوداوی - بخوابی - مالیخولیا - دماغ کے کیڑ نے دائمی درد سرتیشخ - فالج - لقوہ دائیں طرف -

آنکھوں کی عِلامات:

سیاه موتیا۔ ناخوند ف بعر سوداوی۔ پتلیوں کاسکڑنا۔ سلاق باہمنی۔ کوہانجنی۔ خارش پڑوال

کان کی علامات:

كان بجا-كان كى فظى -كان كادرد-بيره ين وغيره

ناك كي علامات:

بندنزله بواسير الانف - تاك كى فتقى وغيره

هونٹوں کی علامات:

مونول كالمعمنا- بواسيرك مونول كاورم-

منه اور زبان کی علامات: ال

قلاع سوداوی۔ ورم اللسان۔ زبان کی جلن زبان کا پھٹا رخشونت اللسان چرہ برسا ہیاں کیل مہاہے۔

دانتوں کی علامات:

وانت درد_دانتوں كا كندا بونا_دانتوں كا كمثا بوتا_دانت بيساردانتوں كاريزه

كانتذ قانون مفرداعضاء 59 -inor, حلق گردن ومری کی علامات: خناق مشكل - تكلنا-ورم مركاتيكى-یھیپھڑوں کی علامات: ضيق النفس يابس - سعال يابس - نمونيا- پھيچروں كاورم- ورم حجاب حاجز - سينہ ى جكرن-حگر وطحال کی علامات: جكركا يوهنا-يرقان اسود-دل کی علامات: ول ب دهوان المعنا _ خفقان _ سرطان قلب درددل _ دل كاسكر تا _ يستان كي علامات: بستانوں کا کینسر۔ بستانوں کی خارش۔ دودھ کی کی۔ بستانوں کاسکڑنا۔ معده وامعاكى علامات: درد معده- للخ معده- رياح معده- تخير معده استقاط بلى- شديد قبض- قراح-كيجو يصرع معدى - خارش وتحياوث معده - دائى قبض - كابوس - فشيخ معده - ناف كاللنا-بواسير بادى - ايند - سائينس خفيف-مقعد کی علامات: متعدكي خارش _ معكندر _ بواسير بادى-عضوتناس گردہ مثانہ اور خصیوں کی علامات: دردكرده ريحى - پيشاب كابند موتا - خصيد كى خارش - خصيوں كاسكرتا - بقرى كرده

كانتيذ قانون مفرداعضاء

ومثانه يددد مثانه دردخصيه باحتلام شادى شده كالواطت يحضو تناسل كاحجعونا بونايه ر حم وشر مگاه کی علامات: وجع الرحم يابس _رحم وشرمگاه كى خارش رحم كاسكرنا _ فلخ الرحم _ رحم كى رسوليال رحم ك مے۔رحم کی پھنسیاں۔اختناق الرحم شادی شدہ کا۔اتھرا۔ جوڑوں کی علامات: جوژوں کا پتحراجانا۔ گنتھیا۔ریاحی دردیں۔عرق النساءدائیں طرف۔درد کمر۔درد لنتصا_ايزيوں كادرد an distant has بالوں کی علامات: بالچر-يفه شكى بهوى اترنا-L'Am Bilghar Sand the Art The ناخن کی علامات: ناخن پيشنا-ناخن كاپتلا ہونا-ناخن كابيٹھ جانا-Title Bay, ablighter جلد کی علاجات: مار میں نہ ہوں جو علاقت ا خارش دادچنبل -سرطان -جلد کا پیشنا-جلد سے چھلکے از تا -جلد کی خشکی - گردنگانا -رسولیاں جذام - کینسر- بخار - معادی بخار - ٹائیفائیڈ -مقام طور پرنبض او پرقدرے تیز جسمی طور پرمونی ۔ ریاح بر ۔ Constanting and an تشخيصي علامات سودا کی زیادتی رحرکات قلب تیز - ترش ڈکار جسم میں ریاح اور شکی کی زیادتی -حرارت کی کی - دبلاین - چہرہ سیابی ماک - دھے - تبض کی زیادتی پیٹاب سرخ - سیابی یا 10. 174.14 سفيدى مآكل -

60

كاتيذ قانون مفرداعضاء 61 تحليل 🛶 د ما څ داعصا عضلاتي اعصابي تحريكه ل وعضلات عضلاتی غدی (خشک گرم) تحریک کی علامات سر کی علامات: صداع معدى - شركى - صداع دموى - ماليخوليا مراتى فالج نجل دهر كا - بخوابي شديد _جنون _دائمي سردرد بوجه اعصابي ود ماغي كمزوري _ دردشقيقه واعصابه دائيس طرف _ آنکھوں کی علامات: آئکھکاخونی حلقہ۔آنکھوں کے گردساہ حلقے' آنکھوں کااندردهنس جانا. یلکوں کی علامات: بلکوں کے بالوں کا اڑ جانا۔ بلکوں کی خارش۔ چم جو کیں۔ کان کی علامات: کان کادرد کن پیرے کان سے خون بہنا' کان میں شائیں شائیں ہونا کان کی ناك كي علامات: نزله بند يكسيرآ نا- تاك كى بواسير-هونٹوں کی علامات: ہونوں کاورم _ بواسیراب _ اب کی خطکی _ لبوں کا پھنا۔

منه کی علامات:

زبان کاسکرتا_زبان کی خشکی _زبان کا پھنا_زبان کا کینسر_منہ پکنا۔

دانتوںَ کی علامات:

مایخورہ۔مسوڑھوں کا درم۔طلق دمری کی علامات گلے کی خشکی۔ آداز کا بیٹھ جانا۔ پچکی۔خناق۔

پھیپھڑوں کی علامات: ختک دمد پھپھروں سے خون آنا۔ ختک کھانی سینہ کی ختکی ۔ ٹی۔ بی۔

دل کی علامات:

اختلاج القلب - ورم اذن القلب - دل كاسكرنا - دل يس سوراخ - ورم قلب -وردول -

یستان کی علامات:

پتانوں کاسکرتا۔دودھی کی دائیں پتان کاورم ۔ پتانوں ۔ خون آنا۔اور چھوٹا برناہوتا۔

معدد مقعد اور آنتوں کی علامات: ورم معدد معدد کی جلن - ناف ٹلنا خونی تے آنا۔ شدید تبض - خونی اسہال تے الدم - بواسیر خونی - ورم مقعد - ناسور مقعد - مسلس تے - اپنڈ س سائیٹس شدید - السر معدد - بھوک کا ہوکا - بخیر معدد -

جگر وطحال کی علامات: جگر اخلاج بود جانا-مفراک کی - درم جگر جگر کی اخلاجی حرکت محسوس کرنا-جگر کا

-11-17

گردہ ومثانہ خصیہ اور عضو تناسل کی علامات: دردگرده بوجه تيز ابيت - بول الدم - انتشار کى شدت - درم تفنيب - كجى تم خصيد خصيدكاسكر جانا حطق -اغلام عسرالبول يراسنيث كليندركابر هجانا -احتلام-ر حم کی علامات: كثرت حيض _ زخم رحم _ الطرا كينسررحم _ Carty Selfered جلد وجوڑوں کی علامات: نقری دردیں۔دائیں طرف ٹائگ تھٹے اور ایڑھی کا درد۔رعشہ۔خشک خارش۔ بلکی بلكى حرارت كار بهنا-نبض مقامى طور پر بالكل او پر حركت ميں بے حد تيز تن ہوتى جسى طور پر يتلى ہوتى ہے لبائى مي جارانكل بى كراس كرتى --A San San تشغيصي علامات: جسم کی رنگت سرخی ماکل _ ہونٹ سرخ دبلا پن _ رطوبات کی کی فظلی کی زیادتی ۔ ول ک دھڑکن کا تیز ہونا۔ پیشاب سرخ زردی مال مقدار میں کم آئے۔ تحليل ب دماغ واعصاب ول وعضلات عضلاتي غدى تحريك

63

64

190926

Rual Martina .

كائتيثه قانون مفرداعضاء

غدى عضلاتي (گرم خشك) تحريك كى علامات

سر کی علاجات: صداع صفراوی - سرسام صفراوی ورم چره پوٹا - چکر آنا درداعصاب - شقیقہ با کیں طرف - غشی - بذیان - صرع خفیف نسیان کم عمرلوگوں کا -

آنکھوں اور پلکوں کی علامات: رصد صغرادی - ریقان دردآ تھ بسبب صفرا - ریقان - پوٹا کے دانے - ناسور چشم -

> کان کی علامات: کان کی موزش قرحدونا سور اذن ریم اذن صفرادی -

هونٹوں کی علامات:

لبوں پر صفراوی چھالے۔

منه اور تحلي حكى علامات: قلاع صفراوى - كلي كى غشا مخاطى مي ورم - جورالم -

پ در بعد ور کی علامات: غدی دمد- چیپردون کا درم- چیپردون میں پیپ پرنا چیپردون میں جلن-

صفراوى كمالى-جگر ویتہ کی علامات: سوزش جكر-سده جكر- يرقان استشقادتى - سوالقيند - باتھ پادَن كى جلن سيندى جلن _دردجکر _ ضعف جگر _ درد پند _ درم پنداماس جسم _ پھری پند -

كاتيد قانون مفرداعضاء

دل کی علامات:

ضعف قلب - دل کی گھبراہٹ فیشی دل کا پھیل جانا سوزش غلاف قلب نقفان قلب حار لولگنا۔ دل کا فیل ہونا۔

معده آنتوں اور مقعد کی علامات:

قے صفراوی بطن معدہ صعف معدہ زجیر صفراوی خونی پیچش کا کچ نگانا۔ قروح المقعد - ناسورالمقعد - کدد کیڑ بے السر معدہ -

گرده مشانه خصیه اور عضوتناس کی علامات: وجع الکلیه مثانه می جلن رگرده می پتمری خصیه کاستسقاً عمر البول - سوزش بول درم گرده - سوزاک - ودم خصیه کم بول -

نسوانی علاجات: ورم رحم _خروج رحم _تطلی حض ورم الثدی حار _ دبیله الثدی حار _ دوده کی کی _ رحم میں جلن _ رحم کے قرح استدعاء رحم _ ورم پیتان _ زچگی کی دیوائلی _ اختیاق الرحم _ غیر شادی شدہ کاز چہ کی ٹا تک کاسفید ورم -

چوڑوں کی علامات:

وجع المفاصل صفراوي جوژون كاآماس

جلد کی علامات: مفرادی خارش _جلد کازرد پر جانا _صفرادی خارش -

66 كائيذ قانون مفرداعضاء شخيصى علامات جسم زرد- پلیلا د هیلا- باتھ پاؤں چرہ پر اماس- رقان حرکات قلب ست مجراجث _ پيشاب زردسرخى ماكل _جلن كے ساتھ آئے -THIN IS AN IN تسكين بد دماغ داعصاب ول وعضلات غدى عضلاتي تحريك جكروغدى غدى اعصابى (گرم تر) تحريك كى علامات سر کی علامت: ast site ale عام دردس - سرسام - عبى كمزورى -All Asthe list آنکھوں کی علامات: نزول الماءيتلى كالتجيل جاناناسور چشمand a start of ناك كي علامات: A Standard Standard غدى زله-نبه اور زبان کی علامات: مسودهون كاورم - فلاع صفراوى استرخا اللسان -حلق مری پھیپھڑوں کی علامات: اسعال تمیدی مددات الجعب - با تین طرف سوزش مری نظلنے میں دفت -

Scanned by CamScanner

كائيذ قانون مفرداعصاء

دل کی علامات: شديدضعف قلب _دل كالچيل جانا_بلژيريشر کازياد ہوجانا_ حگر کی علامات: جكركاورم _جكركادرد-چھرے کی علامات: چر _ كاورم خونى -پستان کی علامات: يبتان كى سوزش بيتان كاسكر جانا بيتان كادرم خصوصاً بائيس طرف -معدہ وانتڑیوں کی علامات: مزمن پیچش پیچش آنوں کے ساتھ شد يد پيچش ورم امعاً مفرادی تے گردہ ومثانہ کی علامات: سوزاک۔ پیشاب کی جلن کے ساتھ آنا پیشاب میں پھری کا آنا۔ بائیں گردے میں درد_مثانہ میں جلن-عضو تناسل کی علامات: سرعت انزال يضعف باه يسوزاك كجي قضيب يائيس طرف خصیہ کی علامات: بائي فصي ميں درد-دائي خصيه كاسكر جانا-رحم کی علامات: رحم کی سوزش خصیة ارحم کی سوزش تنگی حیض رحم کا با ہرنگل جانا۔ رحم کا درد۔ سوزاک۔ ليمور ياجلن كرساته-

67

كائيذ قانون مفرداعضاء مقعد کی علامات: and Barry States and كالج كالكارچون-جلد کی علامات: ناسور ہرشم ۔ چھپا کی صفرادی ۔ زردرنگ کی پھنسیاں جلد کی جلن دار پھنسیاں حميات: انتزدیوں کی سوزش کا بخار۔ ورم جگر کا بخار۔ طاعون کا بخار۔ قر مے نبض تین الگیوں کے پنچے ذرا دباؤ دینے سے محسوس ہوتا ہے۔ نبض رفتار میں رطوبت کی دجہ سے قدرے موتی ہوتی ہے۔ Sallaca (achi تشخيصي غلامات پیشاب زردسفیدی مائل _ ملکی جلن کے ساتھ پیچش آنوں کے ساتھ بے سرالطمث ادر ضعف قلب يلون ميں درد-انتزيوں ميں مروژ - بائي بلد پر يشروغير ہ شخيصى علامات بيں تسكين بد وماغ واعصاب - غدى اعصابي تريك د ل وعضلات اعصابی غدی (تر گرم) تحریک کی علامات صداع ساذج - صداع نزلى - سدر دوار - نسیان - تے کافے کا جنون - مرگ -سر کی علامات: امالصبيان-

Scanned by CamScanner

كانتذقانون مفرداعضاء

آنکھوں کی علامات: آشوب چیشم بلغمی _تکدر _بلغمی _سردہوا سے آنکھوں میں یانی آنا۔ کان کی علامات: اونچاسننا - کانوں میں کسی چیز کا پھنساہوامحسوس ہونا - کانوں میں دزن محسوس ہونا -ناك كي علامات: · ناك - گرم رطوبات كاكرنا - سوتكھنے كى توت كاكم جونا - ناك كے كير - -دانتوں کی علامات: دانتوں كابر هجانا-منه اور زبان کی علامات: منہ سے گندی بد ہوآ نا۔ پیاس _ زبان کا پھول جانا _ ذا نَقْنہ کا جاتے رہنا _ کوا کا پھولنا ۔ بھیبھڑوں کی علامات: پی پیروں کااستر خا ۔ سینہ کی گھٹن ۔ جلن دارکھانسی پیٹھی بلغم کا آنا۔ دل کی علامات: ضعف قلب بلغمى يحضلات وجسم كالچول جانا دل كالچول جانا-پستانون کي علامات: ىپتانوںكابر ھومانا_دودھكى زيادتى-معده اور آنتوں کی علامات: بھوک کابند ہونا۔ سلوتی - بند بیف مروڑ کے ساتھ دست آنا۔ جگر وطحال کی علامات: ضعف جكر عظم طحال-

69

گردہ ومثانہ کی علامات: ذيا بيل _رات كوبسترير پيشاب كردينا ف صعف كروه-عضو تناسل کی علامات: استرخا تضيب-جريان منى-جوڑوں کی علامات: وجع المفاصل بلغمي يحرق النساءدا ئيس طرف Thing . The All children رحم کی علامات: ليكيوريا _ اختشاق الرحم _ رحم كاببرنكل جانا _ بندش خون حيض a har a site in a site she خار: helding all and a star of a shifted فسره_تورك_جدرى نبض انتہائی گہری اور دباؤد بنے سے محسوس ہوتی ہے جسی طور پر موثی اور حرکت میں W. They Start for ي يوتى ب-شخيصى علامات جسم چولا ہوا۔جوبیلا -باربار پیٹاب کی حاجت - پیٹاب میں شکر آنا۔ تحريك ورواغ واعصاب اعسابي غدى تريك - تكين اعطلات

كاتيذ قانون مفرداعصاء

باب نمبر ۱:

علم الادوبيه بالمفرداعضاء

71

اعصابی غذائیں اور دوائیں اور دوائیں ایسی تمام غذائیں اور دوائیں جن کارنگ سفیدیا آسانی ذائقہ میٹھایا کھاری ہواوران کے کھانے سے پیشاب مقدار میں زیادہ اور رنگت میں سفید آئے محرک اعصاب یعنی اعصابی غذائیں اور دوائیں ہیں مشلا دود ھلی کے کھن تحکمی شورہ ۔ سہا کہ دغیرہ ۔ غدی غذائیں اور دوائیں

الیی تمام غذائیں اور دوائیں جن کی رنگت زردیا زردی زیادہ اور دوسر کی کوئی رنگت کم ۔ذائقہ چر پرایانمکین ہواوران کے کھانے سے پیشاب مقدار میں کم اور جلن کے ساتھ آئے محرک غدد یعنی غدد غذائیں اور دوائیں ہیں۔ مثلاً اورک کریلے۔ سرخ مربح۔ گندھک۔ ہلدی۔اجوائن دیسی۔ ہڑتال ورقیہ وغیرہ۔

ایسی تمام غذا تمیں اور دوائیں جن کی رنگت سرخ یا سیاہ ذائقہ کر وایا کھٹا ہوا وران کے کھانے سے بیشاب رنگت میں سرخ اور مقدار میں کم آئے یا بند ہو جائے محرک عصلات لیے بعن عضلات یعنی عضلاتی غذائیں اور دوائیں ہیں۔مثلاً کوشت، مالٹا آلو بخارا، فال، بتمہ، مصبر وغیرہ۔

اعصابی عضلاتی (تر سرد) دوائیں اورغذائیں اعصابی عضلاتی تمام ددائیں ادرغذائیں فعلی طور پر دماغ داعصاب میں مشینی تحریک

كاتيذ قانون مفرداعضاء

ید اکر کے قلب وعضلات میں تسکین اور جگر وغدد میں تحلیل پیدا کرتی ہیں۔ خلط بلغم پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتی ہیں۔ جو کہ درج ذیل ہیں۔ (۱) اجوائن خراسانی (۲) قلعی (۳) اروی (۳) ارارو ف (۵) سکہ (۲) اسبغول (۷) امرود خام (۸) انار شیر یں (۹) برہمی بوئی (۱۰) سینڈی توری (۱۱) گوند کتیرا (۲۱) بیہدانہ (۱۳) چاول (۱۳) بیر شیر یں (۵۱) بکن بوئی (۲۱) برگ شیشم (۷۱) بی (۸۱) بکائن (۱۹) تر بوز (۲۰) تخم خیارین (۱۲) تخم خرفہ (۲۲) برگ شیشم (۷۱) بی (۲۳) تخم خبازی (۵۲) کالا دانہ (۲۲) قلمی شورہ (۲۲) تخم کانی (۳۳) فرید بوئی (۳۳) چاری (۲۰) سور یاں (۲۳) زم میرہ خطائی (۲۳) تخم بالنگو (۳۳) فرید بوئی (۳۳) ساگودانہ (۳۵) سور یاں (۲۳) کافور (۲۳) تخم بالنگو (۳۳) فرید بوئی (۳۳) ساگودانہ (۳۵) سور یاں (۲۳) کافور (۲۳) تخم بوئی (۲۳) باتھی سونڈی (۳۳) ساگودانہ (۳۵) سور یاں (۲۳) کافور (۲۳) تخم بوئی (۲۳) فرید بوئی (۳۳) ساگودانہ (۳۵) سور یاں (۲۳) کافور (۲۳) تخم بالنگو (۳۳) فرید بوئی (۳۳) ساگودانہ (۳۵) سور یاں (۲۳) کافور (۲۳) تخم بالنگو (۳۳) فرید بوئی

72

اعصابی عضلاتی غذائیں بھیر۔ فرنی۔ ساگودانہ کی کھیر۔ مربہ سمینس کا دودھ لی یکھن۔ دودھ۔ چاول ۔ کھیر۔ فرنی۔ ساگودانہ کی کھیر۔ مربہ

بھینس کا دودھ کی مصن ۔ دودھ جادل میں را کا کوشت ۔ کلڑی ۔ کھیرا۔ چکوترا۔ خرگوش کا گاجر ۔ گھیا کدو ۔ مجند کی توری ۔ سری پائے کا گوشت ۔ کلڑی ۔ کھیرا۔ چکوترا۔ خرگوش کا سوشت ۔ نینڈ ے ۔ میٹھاانار ۔ تربوز ۔ سردا۔ قلمی ہیر ۔ گنڈ ریاں ۔ گنا ۔ گوند کمیترا ۔ لونیا ساگ مولگی کی دال ۔ مشرڈ ۔ کچلی ۔ تازہ پتلی کی شکر قندی شربت نیلوفر۔ ساگ مولگی کی دال ۔ مشرڈ ۔ کچلی ۔ تازہ پتلی کی شکر قندی شربت نیلوفر عضلاتی اعصابی (خشک سرد) دوا کمیں اور غذا کمین فعلی طور پر قلب وعضلات میں کیمیادی عضلاتی اعصابی تمام دوا کمیں اور غذا کمیں فعلی طور پر قلب وعضلات میں کیمیادی پیدا کر سے جگر دفدد میں تسکین اور دماغ واعصاب میں تحلیل پیدا کرتی ہیں خلط سودا ار آلو بخارا ۲۰ - آثر وترش - ۲۰ - آلو چد ۲۰ - آم خام - ۵ - آمله - ۲ - ابرک -۲ - سرمد - ۸ - آسمی - ۹ - لوبیا - ۱۰ - تریل - ۱۱ - برگد - ۱۲ - انجبار - ۱۳ - انار ترش -۲۰ - بعنگ - ۵۱ - بند گوبی - ۱۲ - بیلگری - ۲۷ - بعظری - ۲۸ - بیجند - ۱۹ - طباشیر - ۲۰ - نیخ مرجان - ۲۱ - پیپل - ۲۲ - بیول گوبی - ۲۳ - بعظکوی - ۲۳ - تخم سروالی - ۲۵ - تخم جوز ماش -۲۶ - املی - ۲۷ - گراچهال - ۲۸ - بیراکسیس - ۲۹ - ست کیمول - ۲۰ - جهاد - ۱۳ - جامن -۲۳ - چرس - ۲۳ - گودنتی - ۲۳ - سلاجیت - ۵۳ - سمندر جهگ - ۲۳ - سم الفار سفید -۲۳ - گری - ۲۳ - گودنتی - ۲۳ - صدف - ۲۰ - اقاقیا - ۲۱ - گرنجوه - ۲۳ - گل ارمنی -۲۳ - گیری - ۲۴ - بلیله سیاه - ۵۳ - نسپال - ۲۲ - موچن - ۲۲ - با تخص دانت -۲۳ - گیری - ۲۴ - بلیله سیاه - ۵۳ - نسپال - ۲۲ - موچن - ۲۳ - با تحقی دانت -۲۳ - گیری - ۲۴ - بلیله سیاه - ۵۳ - نسپال - ۲۲ - موچن - ۲۳ - با تحقی دانت -

73

عصلاتي اعصابي غذائين

مربدآملد مربد بهی مربد برار دبی آلو گویسی بینگن اچار آملد محیطی برا گوشت اچارلیموں تازہ چنے مٹر انگورترش جنگلی بیر کا تھے بیر جامن سنگترہ۔ فالسد مالٹا آلو بخارا لوکاٹ کنوں آروترش املی مونگ پھلی باریل انارترش۔ رس بھری آلو چہ دہی بھلے آلو چنے رترش سیب کافی کوکا کولا و شیزان ۔ جائے کا قہوہ سنجمین ۔

عضلاتی غدی (خشک گرم) دوائیں اورغذائیں عضلاتی غدی تمام دوائیں اورغذائیں فعلی طور پر قلب دعضلات میں مشینی تحریک پیدا کر کے جگر دغدد میں تسکین اور دماغ داعصاب میں تحلیل پیدا کرتی ہے خلط سودا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتی ہیں۔جو کہ درج ذیل ہیں۔ ارازراتی ۲۔ ہینگ ۳۔ افسخین ۳۔ تمہ ۵۔ مقتر ۲۔ جند بید ستر ۵۔ انجر۔ ۸- باره سنگا- ۹- بالچیز - ۱۰- بلادر -۱۱- بیر بهونی - ۱۲- جلوزی - ۱۳- تحکیر ویل -۱۹- بیاز - ۱۵- پان - ۱۱- پزر ڈوڈی - ۱۷- تل ساه - ۱۸- تا نا - ۱۹- ثما ثر - ۲۰- جوار -۱۲- لونگ - ۲۲- جا تفل - ۲۳- چرائند - ۲۳- کمر ک - ۲۵- ریگ مابی - ۲۳- مالکنی -۲۲- معبر - ۲۸- گوگل - ۲۹- کنوارگندل - ۳۳- نیلاتھوتھا - ۱۳- کالے چنے - ۲۳- منسل -۲۳- بالیوں - ۲۳- عود صلیب - ۳۵- سرنجان تلخ - ۲۳- نیم - ۲۲- چا کسو - ۳۳- مرده سنگ - ۹۳- گوشت کبوتر - ۲۹- انڈ - ۱۳- کال جنار - ۲۹- پا لک -۲۵- شکر اوادام - ۳۳- پالک -۲۵- شکر اور - ۲۳- بران کا گوشت - ۲۲- کال جنار - ۲۸- دال - ۲۵ - ۵- شکر فی - ۲۹- بران کا گوشت - ۲۲- لیس - ۲۷- کوار - ۲۳- دال - ۲۳- پالک -۲۵- شکر - ۲۵- دال کار کوشت - ۲۲- کوار - ۲۲- دال - ۲۵- دال - ۲۵- دال - ۲۵- دال - ۲۲- مرده - ۵- شکر - ۲۲- دال - ۲۲- دال که دال - ۲۲- دال - ۲۳- دال - ۲۲- دال - ۲۰- دال - ۲۰- دال - ۲۰- دال - ۲۲- دال - ۲۰- دال -

74

عصلاتي غدى غذائين

چھوہارے۔انڈے۔ انجیر۔ مربہ تمہ۔ پنے سیاہ۔ مسور کی دال۔ کریلے۔ پالک۔ پیاز۔لہین۔ سرسوں کا ساگ۔ بکوڑے۔ بین کی روٹی۔ آم کا اچار۔ ٹماٹر۔ کونار۔ چلغوزہ۔ شمش سرخ۔ چھوٹے پرندوں کا گوشت۔ کبوتر کا گوشت۔ آم کی چنتی۔ چنے کی دال۔ بھنے چنے۔ دال سویاں۔ فارمی مرغی۔اوجھری۔ کڑھی۔ تکے کہاب۔ شامی کہاب۔ چوہنگاں۔ جاپانی پھل۔ شامی کہاب۔ چوہنگاں۔ جاپانی پھل۔

عدى عضلاتى تمام دوائي اورغذائي فعلى طور پرجگر وغددين كيميادى تريك پيداكر غدى عضلاتى تمام دوائي اوردماغ داعصاب مي تسكين پيداكرتى بي خلط صفرا پيداكر سر قلب وعضلات مي تحليل اوردماغ داعصاب مي تسكين پيداكرتى بي خلط صفرا پيداكر سرجم مي جمع كرتى بين جوكه درج ذيل بين-سرجم مي جمع كرتى بين جوكه درج ذيل بين-ار اجوائن دلي - ۲ - اخروف - ۳ - عقر قرحا - ۳ - سمانجند - ۵ - ازروت -۲ - بودين - 2 - مخم خواز - ۸ - تيزيات - ۹ - سويا - ۱ - جمالكو شرا - ۲ - رائى -۲ - بودين - 2 - مخم خواز - ۸ - تيزيات - ۹ - سويا - ۱ - جمالكو شرا - ۲ - رائى -

كاتيذ قانون مفرداعضاء

۳۷ سونا ۲۰ الی توری ۵۰ ارزعفران ۱۷ سالفارزرد ۷۷ سنگداند مرغ ۸۰ ارکر س ۱۹ کالی زیری ۲۰ سال چینی ۱۷ ساله کندهک ۲۷ سوست مرغ ۳۷ سر مرع ۲ ۱۳ سر گوشت تیتر ۲۵ سوست بشیر ۲۷ سنمک سیاه ۲۷ ساله کار جرن کفری ۲۸ سیسی ۲ ۱۳ سول دهنیا ۲۰۰ سراب بختم ۱۳ سونا کلی ۲۰ ساله ۲۷ ساله کری ۲۰ ساله مرع ۲۰ ۱۳ سول دهنیا ۲۰۰ سراب بختم ۱۳ سونا کلی ۲۰۰ ساله ۲۰ ساله ۲۰ ساله ۲۰ ساله ۲۰ ۱۳ ساله ۲۰ ساله ۱۳ ساله ۲۰ سال ۱۳ ساله ۲۰ ساله

غدى عضلاتي غذائييه:

مرغ کا کوشت _ تیتر بشیر کا کوشت _ محجوری _ انڈوں کا حلوہ - بطخ کا کوشت _ میتھی کا ساگ _ سرسوں کا ساگ _ مربہ ادرک _ ادرک سبز مرج کی چنٹی _ تارامیرا کا ساگ _ بمری کا کوشت _ خوبانی _ شہتوت _ مغزاخروٹ _ مرغ دیمی آلوبالوا چار _ سوہانجنہ _ ساگ تارامیر - پودینہ سبز مرج کی چنٹی -

غدی اعصابی (گرم تر) دوا نیس اورغذا نیس فدی اعصابی تمام دوا نیس اورغذا نیس فعلی طور پرجگر وغدد میں مشینی تر یک پیدا کر کے دماغ واعصاب میں تسکین اور قلب وعضلات میں تعلیل پیدا کرتی ہیں۔ خلط صفر اُپیدا کر کے خارج بھی کرتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ا_ آم شیر یں _ ۲ _ بلدی _ ۳ _ ادرک _ ۳ _ آکسن _ ۵ _ ارتذ _ ۲ _ آکاس بیل ک _ انگور شیر یں _ ۸ _ شہد _ ۹ _ بادام شیر یں _ ۱۰ _ باتھو _ ۱۱ _ بادیاں _ ۲ ا _ بندق -سار جری کا کوشت _ ۱۲ _ بغدار ۵ ا رُند تا _ ۲ ا _ جن مصار و _ ۳ _ روغن اخرو ب

٢٢- ريوند خطائى - ٢٥- زيره سفيد - ٢٢- زخيل - ٢٢- ساكى - ٢٨- سورنجال شري-

۲۹ مید محا - ۳۰ مشکر شیغال - ۳۱ مکو ۲۳ - کالی مربع - ۳۳ - گو سا۲ محجور - ۳۵ نمک -۲۳ - نوشادر - ۲۷ - مغز شخم نیم - ۲۸ - بر تال ورقید - ۳۹ - اونت کثارا - ۲۰ - بداری قند -۳۱ - بار سنگھار - ۲۲ - مروژ کچلی - ۳۳ - اشنان - ۳۴ - پخفر کچوژ بوٹی - ۴۵ - اژ دسه -۲۳ - چرونجی - ۲۷ - فربوزہ - ۲۸ - چلغوزہ - ۴۹ - پستة - ۵ - اسکھرا -

غدی اعصابی غذائیں:

حلوہ کدو۔ حلوہ بادام۔ پیشا۔افٹنی کا دودھ۔ بکری کا دودھ۔ شہد۔ کیک رس۔ دودھ تھی ملا کر۔ مرغابی کا گوشت ۔ امرود پختہ۔انناس۔ روغن زیتوں۔ادرک پودینہ کی چننی۔ آم شیریں۔انگور شیریں۔ میٹھا۔ باتھو کا ساگ۔خربوزہ۔ پراٹھا دیسی تھی والا۔ آم کا ملک شیک۔

كائيذ قانون مفرداعضاء 77 -0-1.2. اعصابی غدی غذائیں: دودده-مربدگاجر-مربدسیب-کھویا-سوجی کاحلوا-جلیبیاں _گلقند _توری _مولی-شلجم تجريلا - كدد كاحلوه - ببيضا - موتكر ب - سويال - كوشت دنبه - كوشت بكرا - ناشاتي -امروشیری _خربوزہ بیٹھا۔ دلیا۔ ٹینڈے۔ گرما۔ ماش کی دال۔مغز سری بیٹھے۔ چاول۔ ئنيديال-اجارلوده- يحث-كيكامك شيك-قانون مفرداعضاءكي ادويات كي اصطلاحات ىحرك: محرك اليي دواكو كہتے ہيں جو كسى مفرد عضوكوسكون سے حركت ميں لے آئے۔ محرك شديد: محرك دوات ذراتيز اثركى دوامحرك شديد كهلاتى ب-، ملین ایس دوا کو کہتے ہیں جس میں محرک وشد پد اثرات کے ساتھ ساتھ فضلات کو خارج كرنے كى قوت بھى ہوتى ب-مسہل دوا میں محرک۔ شد پد ملین اثرات کے علاوہ فضلات کو تیزی سے خارج کرنے کی قوت بھی ہوتی ہے۔مسبل دوا کو کم مقدار میں دے کر محرک شدید اور ملین کا کام بمى لياجا سكتاب-مقوى اليى دواكو كبت بي جوكى مفردعضو يس آسته آسته خون جذب كرداكراس كى

كائتيثر قانون مغرداعضاء

تقويت كاباعث بنتى ہے۔

اکسیر:

اسیرایی دواکو کہتے ہیں جوفوراخون میں جذب ہوکراپنااٹر شروع کردےاوراس اثر کوکافی مدت تک قائم بھی رکھتی ہے۔

78

ترياق:

ترياق اس دواکو کہتے ہيں جواپنے سے مخالف زہر کے اثرات کوفور اختم کرديتی ہے۔ فار ماکو پيا قانون مفرد اعضاء

محوزه: حيم انقلاب مجدد طب موجد قانون مفرداعضاءار سطوثاني حكيم دوست محدصا برملتاني اعصابي عضلاتي مجربات

، ك اعم فتحم كائن هتوله قلمى شوره ٣ توله سفوف بناليس-خوراك: أيك ماشم اشتر حرك شديد اعصابى عضلاتر محم كاسي فاتوله قلمى شوره ٣ توله جوكهار فتوله سفوف بناكيس-خوراك: المشاسم الشك ملين اعصابى عف محم كان دتوله قلمى شورة اتوله

كائيذ قانون مفرداعضاء 79 م الم الم الوله سفوف بثالين -ج کهار ۵ توله خوراك: ايك ماشة ٢٢ ماشة تك مسمل اعصابي عضلاتي: قلمى شوره ساتوليه محتم کائی۵تولہ جوكهاره توله گل *سرخ*∧توله كالادانه اتوله سفوف بنالين-فوراك: ايك اشتامات-اعصابی عضلاتی مقوی: ابريثم كشيز هرايك الوله كاؤزيان الا بچکى خوردا يک توله براده صندل سفيده توله رب انارشيري آ دهكلو عرق كلاب اكلؤ چيني کلو تركيب تيارى: كاوربان ابريشم كشيز اورصندل كوعرق كلاب مي رات كوبطودي - مع آگ پردکھ پر پکائیں۔جب ایک چوتھائی پانی باقی رہ جائے تو اس کو چھان کیں پھراس میں رب انارشیری ملاکراور چینی ڈال کرآگ پرد کھ کر خمیرے کے قوام پر لے آئیں پھر اس کو ال قدر كموثين كم سفيد موجات-خوراك: "اشتك-اعصابي عضلاتي اكسير: کشتہ چاندی ایک تولہ کشتہ کی ہے۔ کشتہ چاندی ایک تولہ الا پنجی کلاں اڑھائی تولہ تركيب تيارى: طباشيراورالا يحكى كلال كوعليجده عليحده باريك پي ليس-اور بحردونو لشة

كائتذ قانون مفرداعضاء 80 جات ملاكركھرل كركيس-خوراك: ٢رتى ٢ مرتى تك كمهن وغيره مين دي-اعصابي عضلاتي ترياق: لوبان كوژياايك توله افيون أيك ماشه چيني ايک توله یتیوں ادوبات کو کھرل کرلیں۔ جب سرمہ کی طرح باریک ہوجائے۔ تو محفوظ کر ليس-تياري-خوراك: ارتى سارتى تك Califica State عضلاتي اعصابي مجربات محرك عضلاتي اعصابي: مغز كرنجوه ٥ توله سفوف بناليس-خوراك: اماشى ماشتك-Section Add april 150 محرك شديد عضلاتي اعصابي: Cardenie Revenue آمارەتولە مغزكر بحوه فاتوله م م اتوله سفوف بناليس-خوراك: سرتى الشتك-آملده تولد مليين عضلاتي اعصابي: مغزكرنجوه فآوله بليله سياه بريان ٢٠ توله سفوف بنالين. به فكوى بريان • اتوله خوراك: ٣رتى الك اشتك affine test of the by the set of

كاتيذ فانون مفرواعضاء

سهل عضلاتي اعصابي:

بهظوى بريان • اتوله

خوراك: الك اشت ااشتك-

عضلاتي اعصابي مقوى:

جلايا ٢٠ توله مفوف بناليس-

مغزكرنجوه فاتوله

آملده توله بليله سياه بريال ۲۰ توله

پوست بليلەزرد اتولد پوست بليله كابلى اتولد پوست بليله ساد اتولد آملة قود مى اتولد بىغانى اتولد مويز منى اتولد سىم ش اتول مويز منى اتولد كشير فولادا يك قول بادام روغن مى جرب كرك ايك كلوچينى كا قوام تياركر كى مى شام كرليس ادرا تيمى طر حلاليس -قوام تياركر كى مى شامل كرليس ادرا تيمى طر حلاليس -

عضلاتی اعصابی اکسیر: ممالفارسفیداماش کشت چاندگاتولددونوں کولماکر کم از کم ۳ کھنے کول کری۔ خوداک: ایک چاول – ۳ چاول -عضلاتی اعصابی تریاق:

مرمدسادایک تولد ریشے کا چھلکا ولد توکیب تیادی: ریشے کا چھلکا سنوف بتالیں پحر سرمد ساد کھرل میں ڈال کر تحو ڈاتحو ڈا ریشے کاسنوف ڈالتے جاکی اور کھرل کرتے جاکی یہاں تک کہ یہاں تک کہ تمام سنوف

كائير قانون مفرداعصاء 82 ختم ہوجائے۔ خوراك: ايكرتى ايك ماشتك-عضلاتي غدى مجربات محرك عضلاتي غدي: دار چيني ساتوله سفوف بناليس-لوتك ايك توله خوراك: ٣رتى ايك ماشد محرك شديد عضلاتي غدى: دار چيني ۳ توله لونگ ایک توله جاوترى اتوله سفوف بناليس-خوراك: ٣رتى ايك ماشتك-ملين عضلاتي غدى: دار چینی ۳ توله لوتك اتوله مصر ٢ تولي فوف بنالي -جاوتر ی اتوله خوراك: ٢رتى ٢رتى عمرتى تكatt they bearing سمل عضلاتی غدی: دار چینی ۳ توله لوتك ايك توله William and St. 10 معراقوله جاوتر ی اتوله Martin temp خطل مرتوله مقوف بناليس-خوراك: سرتى ايك اشتك-Million Section

كاتيذ قانون مفرداعضاء

مضلاتي غدي مقوى: كلهدبرايك توله جائفل ايك توله جاوتر کی خولنجال دار بختى بالجحز السنتين برايك ايك تول شهد ايادَ تركيب تيارى: تمام ادويات كاسفوف بناكرتين ياوَشهدكا قوام تياركر اس مس ملاكر معجون بناليس-فوراك: ايك ماشهت الشتك-عضلاتي غدي اكسير: شكرف رومى ايك توله مركى " توله دونوں كوملا كرسلسل ايك كھنشە كھرل كركيں-خوراك: ايكرتى ٢٠ رتى تك-عضلاتی غدی تریاق: اجوائن دلیی۲۰ توله تیزاب گندهک حسب ضرورت سفوف بنالیس _

83

اجوائن دیمى ٢٠ تولد سيخ الراب لندهك سب سرورت سوف بنايل -توكيب تيارى: اجوائن كوكى چينى كريزن مين ڈال كراس ميں اتنا تيز اب ڈاليس كرتر مو جائر ايك روز اس كو پردار بنے ديں - دوسر - روز ماون دستہ ميں ڈال كرخوب كوميں -جب كولى بنانے كرقابل موجائے تونخو دى كولياں بناليں -. خوداك اتا م كولى تك -

syed imran sherazi

غدى عضلاتي مجربات

محرك غدى عضلاتى: تيزيات م توله سفوف بناليس-اجوائن دليي متوله خوراك: اماشديا اشتك-محرك شديد غدى عضلاتي: تيزيات اتوله اجوائن دليي متوله رائى موتولە سفوف بتاليس-خوراک: اماشتا ۲ اشتک-🙆 ملين غدى عضلاتى: اجوائن دلي مولد تيزيات مولدرائي مولد كندهك آمله سارا اتولد سفوف بناليس خوراك: ٣رتى ٢٥ شك-مسمل غدى عضلاتى: تيزيات اتوله اجوائن موله كندحك آمله مادا اتوله رائى ستوله مغزجمالكوشاتولد مغوف بتاليس-An advertising the the First Notari Gase خوراك: ارتى تامرتى كand the second states of the غدی عضلاتی مقوی: رتحيل ١٨٢-١٢ توله مريراً لمد الولد اجوائن دلى١٠٢٢ تولد بودينة ١/١-١٢ تولد معطلى روى١١٢٢ ١٢ تولد قلفل ادارا اراتوله

84

كاتيذة لون مغردامضاء 85 عقرقر حام ١١ _ اتول بادیان۱۱۲_اتولہ נצום ויזינע زعفران ٩ ماشه ورعب تعادى: مربدة مدكوباريك بي كرطود مايتالي بحرتمام ادويه كاسفوف بناكراس میں ملاکرتمام ادوبیہ کے وزن سے دوگنا وچینی اورادویات کے ہم وزن شہد خالص لے کر دونوں كاقوام تياركركيس اور باريك يسى بوئى ادويات كواس ميں ملاكيس تيار ب_ فوراك: "اشعا اشك. 두 غدى عضلاتي اكسير : كذحك آلمدماد يمتولد بارداك توله ددنوں کو کم از کم ایک کھنتہ کھرل کرلیں۔ فوراك الكران الكراشك. غدى عضلاتي ترياق: رائي-اتوله 1700,000 دونوں كاسفوف بنا كرتو دى كولياں بناليس-خوراك: ١٦٣ كول ك. غدى اعصابي بحربات محرك غدى اعصابى: توشادراتوله مغوف بتاليس ذكحط هتوله فواك ارتى الكاشك محرك شديد غدى اعصابى: J.Fr. Ster دمحط دتوله

كانتيذ قانون مفرداعضاء

مرچ سیاہ ایک تولہ سفوف بنالیں۔ خوراك: ٣رتى =ايك ماشد ملين غدى اعصابى: رتجبيل د تولير نوشادر اتوله سناعی ۸ توله سفوف بنالیس مرج ساداتوله خوراك: ٣رتى ايك ماشتك-سهل غدی اعصابی: نوشادر اتوله ركبيل د توله سناعی ۸ توله مرج سياه اتوله ريوندعصاره ٥ توله سفوف بناليس-خوراك: ٢رتى ايك ماشتك-غدی اعصابی مقوی: مغزيسة اتوله مغز چلغوزه اتوله مغزفندق اتوله مغزاخروث اتوله مغز فخم فربوزه اتوله التحد مقشر الوله مغرجم ينبه دانة اتوله مغزقهم خيارين اتوله بادام شري الوله ثعلب مصرى توله محم باداوله 5 22 25 25 شدخالص اكلو توكيب تيارى: تمام ادويات كاسفوف بناليس اورشمدكا قوام بناكرادويات قوام مين ذال كرلوب تياركري-

86

كاتيذ قانون مفرداعضاء

خوراک: ۳ ماشد ۲ ماشتک

غدي اعصابي اكسير:

غدى اعصابى ترياق:

ہڑتال در قیدایک تولہ زخیمیل سولہ فلفل سیاد سولہ تینوں اددیات کوتین گھنٹہ کھرل کریں۔ خوداک: ۲رتی سے سرتی تک۔

شرمار اتولہ سہا کہ اولہ زمجیل داتولہ پیل مول اتولہ ترکیب تیاری: شرمار کے علادہ باقی تمام ادویات کو باریک پی لیں پھر شرمار ملاکر خوراک: ارتی سے ارتی تک۔

87

اعصابىغدى مجربات

محرك اعصابى غدى: سما كربريال علولد منفى علوله، سفوف خوراك ايك ماشة تا ماشة تك -محرك شديد اعصابى غدى: سما كربريال علولد منفوف يناليل -ترك كادود ها الولد منفوف يناليل -خوراك ارتى سيم رتى تك -

Scanned by CamScanner

كائتيذ قانون مغرداعضاء

ملٹھی یاتولہ ریوندچینی ہتولہ سفوف بنالیں۔

88

ملين اعصابى غدى: سماكربريال عوله شيرمدارالااتوله خوداك: ارتى بسمرتى تك

مسهل اعصابی غدی:

سہا کہ بریاں یولہ منتقبی یولہ آک کادودھ آدھ تولہ منتقبی اللہ منتقبی کا دودھ اللہ منالیں۔ خوراک: ۲ رتی سے ایک ماشہ۔

اعصابی غدی مقوی: فتحم كددمقش الوله ميده كندم واتوله گوند کیکر واتولہ تخم تربوز مقشر واتوله × 2 كاخالص دوده كالي خالص ٢٠ توله تركيب تيارى: ميده كدم كوكمى من آستدا ستد بلكى بلكى آك يرجونين - جب وه سرخ ہوجائے تو اس کوا تارکررکھ دیں۔ پھرتخم کد دمقشرا دریخم تربوز مقشر کو باریک پیں لیں۔ گوند کیکرکوبھی علیحدہ پاریک پیں لیں۔ پھر تینوں کوملا کرکوٹیں۔اور یکجان کرلیں اور پھر بھنے ہوئے میدے میں ڈال کراو پر دود ہڈال دیں۔اور آگ پر رکھ دین۔ جب دود ھ خشک ہو جائے تو لکڑی کی آگ نکال کرصرف کوئلوں کی آگ پررکھ کر آ ستد آ ستد ہلائیں اور یہاں تك يكائي كماس كايانى بالكل ا وجائر اوراس مي ليس بيدا بوجائ بس تيار ب-البيتداس امركاخيال رعيس كدتهى اس بيس نظرا تا بواكرتهي كم معلوم بوتو • اتوله تهى كرم كر بح ذال دير _ اس مي جس قدرتهى زياده موكااورجس قدردود هكاياني ختك موكا _ اتن ىن زيادەدىرتك بىمركب ركھاجاسكتاب-

كاتذقانون مفرداعضاء 89 خوداک: ۲ ماشدس ایک تولیتک -اعصابي غدي اكس حجراليېود نوشادر چيني اټوله پېلى چاردداؤل كوباريك چين كرتھوژى تھوژى چينى دال كركم ازكم ايك جراليهود تحنثه کھرل کریں۔ خوراك: ايك اشت ااشتك اعصابی غدی تریاق: شيرمدارا يك توله ېلدى ۵ اتوله دونوں كوملاكر ٢٠ المحنشد كھرل كركيس تيار ب-

syed imran sherazi

Scanned by CamScanner

خوراك: ٢رتى ايك اشتك-

ہاب نصبر ۷: syed imran sherazi قانون مفرداعضاء کی ادویات کے مختصرافعال واثرات

90

نظريد مفرداعضا ومن جونكه برعضو كردود وفعل بين ايك مشيخ فعل ادرددسرا كيمياوي فعل جن كوشيني تحريك ادر كيميادي تحريك كهاجاتا بالطرح نظريه مفرداعضاء كى ادديات بھی دوشم کے افعال دائرات رکھتی ہیں۔ (۱) مشيخي اثرات ركلنے دالى اد دیات (۲) کیمیادی اثرات رکھنے دالی اددیات مشيني اثرات ركحنے والى ادويات

اعصابی عضلاتی دو انید: یددا کم مشیخ اثرات رکمتی میں رتری کے ساتھ مردی پیدا کرتی میں ادران دداؤں کااثر قلب پرلازی ہوتا ہے۔ یددوا کمی جم میں پوری طرح شنڈک پیدا کرتی میں بلخی رطوبات بکثرت ادر نباعت تیزی سے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی کرتی میں پیشاب زیادہ لاتی میں اگر بہت زیادہ استعال کرلی جا کمی تو بدن کی حرارت کو کے دم ختم کردیتی میں جس سے دل ڈو بے لگتا ہے۔ گری کے بخار کو کم کرنے کے لئے بے حد مفید میں۔ میں اور بیٹ بی طن اور بیتان کے لئے فوری اثر میں ۔ خوتی یوا سراور بلڈ پر میر کی شد میں

کائیڈ تانون مفرد اعضاء صورتوں میں فوری موثر بین تمام غدی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے تریاق ہیں۔

عصلاتي غدى دوائين

ید دوائی مشینی اثرات رکھتی ہیں خطی کے ساتھ گرمی پیدا کرتی ہیں۔ ید دوائیں اخلاطی صورت میں پختہ مادہ سودا بکثرت اور نہایت تیزی سے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتی ہیں۔ یہ نہایت مصفی خون اور مقوی قلب دوائیں ہیں۔ حرارت عزیزی پیدا کر کے فوراً سن بدن کو گرم کردیتی ہیں۔ کثرت پیشاب میں بے حد مفید ہیں۔ خون کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ خون بھی پیدا کرتی ہیں۔ تمام بلغی امراض کا خاتمہ کردیتی ہیں اس لئے تمام اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی امراض وعلامات کے

غدى اعصابي دوائين

یددوائیں مشینی اثرات رکھتی ہیں۔ گری کے ساتھ تری پیدا کرتی ہیں۔ یددوائیں اخلاطی صورت میں خلط صفراً پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج بھی کرتی ہیں۔ کا سرریاح ہیں۔ دماغ میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ جگر اور معدہ کے تمام سوزشی امراض میں کا میاب دوائیں ہیں تمام سوداوی امراض مثلاً سیاہ ریقان۔ خشک دمد خونی بواسیر۔ مالیخولیا۔ خالج اسل تپ دق۔ احتلام وجع المفاصل وغیرہ کے لئے کا میاب دوائیں ہیں۔ تمام عصلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے تریاق ہیں۔

کیمیاوی اثرات رکھنے والی ادویات

عضلاتي اعصابي دوائين

بددوائي كيمياوى اثرات ركمتى بين فتظلى سردى اور تيزابيت پيداكرتى بين اس لخ

لخرياق بن-

بلغی امراض میں مقوی قلب اور مفرر جگریں بلغی رطوبات کو شم کرتی ہیں۔ قابض اور مقوی بدن ہیں۔ خون پیدا کرتی ہیں اس لئے جریان لیکوریا۔ سرعت انزال کے لئے کامیاب دوا کیں ہیں۔ شدید کھانی میں جب صرف جھا ک ی تکلق ہواور بلغم کاغلفہ نہ بنآ ہو۔ اس وقت بید دوا کی اکسیر کا کام دیتی ہیں۔ بید دوا کی نوجوان مرد عور توں اور بچوں کے لئے خاص طور پر مفیدر بتی ہیں۔ بوڑھوں کو بیں دیٹی چا ہیں کیونکہ بوڑھوں کا مزاج خشک سرد ہوجاتا ہے اور ان دواؤں کا مزاج خشک سرد ہے اس لئے بید دوا کی بود اس بوڑھوں میں شکھی اور

عضلاتی اعصابی دوائی تمام غدی اعصابی اوراعصابی غدی امراض وعلامات کے لئے تریاق میں۔

بوژهوں کوعضلاتی غدی دوائیں دیں۔

غدى عصلاتي دوائين

یددائی کیمادی اثرات رکھتی ہیں۔ گری فظی پیدا کرتی ہیں یہ بہایت گرم دوائیں ہیں اس لئے رطوبت و تیز ابیت کا خاتمہ کر کے خالص صفراً پیدا کرتی ہیں۔ اور بدن کی زہروں کو ختم کرتی ہیں۔ اگر ان دواؤں کے برابر کھانے کا نمک ملا دیا جائے تو ان کے اثرات پچ اس گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہیف کے اور دست جب کی دوات بند نہ ہوتے ہوں تو اس دقت یہ تریاق کا کام دیتی ہیں۔ مرض کی شد ید صور توں میں تریاق استعال کریں۔ اگر یہ دوائیں مقدار میں زیادہ دی جائیں تو دل میں تجراب پیدا کرتی ہیں۔ تمام اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی امراض دعلامات کے لئے تریاق ہیں۔

اعصابی غدی دوائیں بیددائیں کیمیادی اثرات رکھتی ہیں تری کے ساتھ گرمی پیدا کرتی ہیں۔ بیددوائیں مقوی د ماغ داعصاب ادرمفرح قلب ہیں چونکہ بدن میں بلغمی رطوبت پیدا کرتی ہیں ادر

كانتيذ قانون مفرداعضاء 93 يدن مين جع ركھتى بين اس ليخ صفراوى امراض ميں تسكين پيدا كرتى ہيں۔ گاڑ سے خون کو پتلا کرتی ہیں۔ حدت خون - چھپا کی اور سوزی امراض کے لئے كامياب دوائي بي - بيشاب زياده لاتى بي صفراكوكم كرف كفهايت مفيدين بالى بلد ريشريس مفيدين - گاڑھى بلغم كو پتلاكرتى بين - تكسير - خونى حونى پيچ - بيشاب ميں جون آنا۔ خونی بواسیر - ٹی بی - بدن کے تحواد اور پھوں کے تحواد رتناؤ کو دور کرنے کے لے کامیاب دوائیں ہیں۔ تمام عصلاتی غدی اور غدی عصلاتی اور غدی اعصابی امراض دعلامات کے لئے

-ג<u>ו</u>טייט-

syed imran sherazi



كائيرة تون مغرداعضاء

یاب نمبر ۸:

اصول علاج بمطابق قانون مفرداعضاء

94

كاتيذ قانون مغرداعصاء

ای طرح ہوں	ولصورتي	ضاءم يرتين	تينو صفرداع	
		اعصاب	تام اعضاء	
		تخيك	Ė1,	1
	تخيك	تسكين	جر	۲
-	تىكىن	محليل ا	ول	٣
	معندات تسکین تحلیل	غدد ععنلات قحلیل تسکین تحریک قحلیل	اعصاب غدد عضلات تحريک تحليل تسکين تسکين تحريک تحليل تحله تک	دماغ تحريک تحليل تسکين جگر تسکين تحريک تحليل

نظریہ مفردا غضاء کے تحت علاج کرنے کے لئے انسانی جسم میں دوران خون کو بھتا پڑتا ہے۔ کیونکہ مفرد اعضاء میں دوران خون کی کمی بیشی سے ہی تحریک تسکین اور تحلیل کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہم یہاں نظریہ مفرد اعضاء کے تحت دورانِ خون بیان کرتے ہیں۔تا کہ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت دوران سمجھا جا سکے۔

قانون مفردا عضاءاور دوران خون

تانون مفرداعضاء کی تحقیق کے مطابق خون صرف غذا ہے بنآ ہے غذا ہے اخلاط بنتے ہیں اور اخلاط کے ملنے سے خون بنآ ہے کو یا کہ خون اخلاط کا مرکب ہے۔ اخلاط بلغم سودا اور صفرا بنی تمام مفرد اعضاء کی غذا ہیں چونکہ خون میں تمام اخلاط موجود ہیں اس لئے اللہ تعالٰی نے اپنی حکمت عالیہ سے اسے جسم کے ذرب ذرب تک پہنچانے کے لئے دل کی دساطت سے ہردفت خون کا دوران جاری رکھا ہوا ہے۔ بیت حقیقت ہے کہ خون اخلاط ر بلغم۔ مود ااور صفر اکا مرکب ہے لیکن بیتمام اخلاط خون میں بیل کو کی خلط سب سے ریادہ کو کی خلط کم اور کو کی خلط بلک ہی کم ہے اخلاط کی میشی ہماری ردز مرہ کی غذاؤں کے استعال سے ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ مخلف غذاؤں سے ہی مختلف قسم کی اخلاط بنتی ہیں۔ ریادہ کو کی خلط کہ اور کو کی خلط بالکل ہی کم ہے اخلاط کی کی میشی ہماری ردز مرہ کی غذاؤں کے استعال سے ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ مختلف غذاؤں سے ہی مختلف قسم کی اخلاط بنتی ہیں۔ را خون میں جوخلط سب سے زیادہ ہوتی ہے خون اس خلط سے مزان والے مفرد اعضاء کی طرف زیادہ جاتا ہے جس سے اس خلط کے مزان دولے مفردا عضاء فضل میں تیز ہو

96 (٢) خون میں جو خلط زیادہ ہے کم ہوتی ہے خون ای نسبت سے ان مفرد اعضاء میں کم جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مفرد اعضاء پہلے سے کمزور ہوجاتے ہیں۔اس کونظریہ مفرد اعضاء مي تخليل كتبة بين-(٣) خون میں جو خلط سب سے كم ہوتى ہے اس خلط كے مزاج والے مفرد اعضاء میں خون بھی بہت ہی کم جاتا ہے جس سے دہ نہایت ست اور کمز ور ہوجاتے ہیں۔ اس كونظريد كومفرداعصاء مي تسكين كہتے ہيں۔ فحريك هرر دماغ واعصاب دل دعضلات قانون مفرداعضاء ميں دوران خون كى تحقيق خون دل ہے جسم میں دھکیلا جاتا ہے پھر بیشریانوں کی وساطت سے غدد میں چلا جاتا ہے اور پھر غدد سے اعصاب کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اعصاب سے واپس قلب وعضلات كىطرف چلاجاتاب دماغ داعصاب دل دعضلات نظريد مفرداعضاء مس دوران خون نظريدمفرداعصاء على جودوران خون ديا كياب اسكامطلب يدب كهجب بم

الج مي كدقل وعضلات فعل من تيز مي يا قلب وعضلات من تريك ب يا قلب

كاتيذ قانون مفرداعصاء

وعضلات میں خون زیادہ جارہا ہے خون تو صرف اور صرف شریانوں اور وریدوں میں دورہ کرتا ہے جس سے جسم کابال بال اور ہر خلیہ اپنی اپنی غذا جذب کرتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں جو دوران خون دیا گیا ہے وہ مفرد اعضاء کے افعال کے مطابق دیا گیا ہے۔مثلاً

اگردل کافعل تیز بو قانون مفرداعضا مادر فطری قانون کے مطابق دل کے فعل کو اعتدال پرلانے کے لئے جگر کے فعل کو تیز کرنا ہے اور جگر کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو اسے اعتدال پرلانے کے لئے جگر کے فعل کو تیز کرنا ہے اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو اسے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو جائے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو اسے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضردرت سے زیادہ تیز ہو اسے گا۔ تو دماغ کافعل تیز کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دماغ کافعل ضرد درت سے زیادہ تیز ہو تا ہوں مغرد اسے اسے اعتدال پرلانے کے لئے دل کے فعل کو تیز کیا جاتا ہو ای قانون کر تی تا ہوں مفرد اسے اعتدال پرلانے کے لئے دل کے فعل کو تیز کیا جاتا ہو ای قانون کے تحت قانون مفرد اسے اعتدال پرلانے کے لئے دل کے فعل کو تیز کیا جاتا ہو ای قانون کے تحت قانون مفرد اسے اعتدال پرلانے کے لئے دل کے فعل کو تیز کیا جاتا ہم ای قانون کے تحت قانون مغرد اسے اعتدال پرلانے کے لئے دل کے فعل کو تیز کیا جاتا ہو ای قانون کے تیز کیا جاتا ہوں اور در یوں کی در اعضاء میں دوران خون دیا گیا ہے۔ یا در کھیں دل جگر اور دماغ بھی شریا نوں اور در یوں کا در یوں اور در یوں کی دورا من خون سے غذا حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے اجسام میں بھی شریا نیں اور در یوں پر

قدرت کا منات میں تری کو خطکی اور خطکی کو گرمی ہے اور گرمی کو تری ہے ختم کرتی ہے یا تری کو خطکی میں اور خطکی کو گرمی میں اور گرمی کو تری میں تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ چکر کا منات میں چلتار ہتا ہے جس سے کا منات میں نظام زندگی قائم رہتا ہے۔ انسانی زندگی بھی چونکہ کا منات کا حصہ اور انسانی زندگی میں تری کی صورت میں خلط بلغم اور خطکی کی صورت میں خلط سود ااور گرمی کی صورت میں خلط صفر او پائی جاتی ہیں۔

چونکہ قدرت تری کو خشکی میں اور خشکی کو گرمی میں اور گرمی کو تری میں تبدیل کرتی ہے۔اس لئے ہمیں بھی علاج کی صورت میں بلغم کو سودامیں اور سود اکو صفرامیں اور صفر اکو بلغم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ یہی قدرتی فطری اور اصولی علاج ہوگا۔

يں اگر

(١) اعصاب میں تحریک ہے جسم میں خلط بلغم (تری) کی زیادتی ہے عضلات کو

كائيذ قانون مفرداعضاء (۲)عضلاتی اعصابی کیمیاوی تحری کوعضلاتی غدی مشیخی تحریک میں تبدیل کریں۔ (٣)عضلاتی غدی مشینی تحریک کوغدی عضلاتی کیمیادی تحریک میں تبدیل کریں۔ (٣) غدى عصلاتى كيميادى تحريك كوغدى اعصابى مشينى تحريك ميں تبديل كريں۔ ۵) غدی اعصابی مشیخ کچر یک کواعصابی غدی کیمیادی تحریک میں تبدیل کریں۔ (٢) اعصابی غدی کیمیاوی تحریک کواعصابی عضلاتی مشیخ کیک میں تبدیل کریں۔ بيضح اوراصولى علاج جوكه مفرداعصاء كافعال كومد نظرر كمكركياجا تاب ليكن کی بھی علم وفن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے ای طرح نظریہ مفرد اعضاء میں بھی مہارت حاصل کرنے کے لئے وقت درکارہے۔ اس لئے جب طالب علم اور نے شائفتین قانون مفرد اعضاء جب مندرجہ بالاکلیہ کے تحت علاج کرتے ہیں تو انہیں چونکہ کمل طور پرنظر پیہ ضرداعضاء پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ مفرد اعضاء کے مزاج-مفرد اعضاء کی حالتوں اور مفرد اعضاء کے افعال اور نظریہ مفرد اعضاء کے تحت تشخیص میں مہارت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس سے خٹ شائفین قانون مفرد اعضاء کو پریشان ہونا پڑتا ہے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے نظرید مفرداعضاء کے تحت علاج کرنے کے لئے ایسے طریقے اور کیے ورموز وذکات کے ساتھ اس کتاب میں درج کیے جارہے ہیں کہ نظریہ مفر داعضاء کو معمولی سجھنے والے طالب علم اور شائقين اور حكما كرام اور ذاكثر صاحبان نظريد مفردا عضاء تحتحت كاميابي س علاج كرسكين ادرمر يضون يرنظر بيه مفرد اعضاءكي دهاك بثها سكين _ ادرخود بهي نظريه مفرد اعضاء کی ساحران کا میابی ملاحظه فرمانتیس-نظريدمفرد اعضاءيس مقام تحريك كومقام مرض سليم كياجاتا ب اورتحريك كوخليل م تبديل كرماباعث شفاب تحريك كى جكه جب تحليل كى جاتى بو جوعضو يبل بهت زياده تيز ہوتا ہے وہ ممزور ہوجاتا ہے اور اس کی تیزی سے پيدا ہونے والے امراض وعلامات ختم اوجاتے ہیں یعن تحریک کی جگہ تلیل ۔ تیزی کی جگہ کی کی جاتی ہے۔


Scanned by CamScanner


كائيذ قانون مفرداعضاء

بعض اوقات كونى تحريك بالخضوص مشينى تحريك اتنى زياده شدت اختيار كرليتى بي كم مريض كى جان كو خطره ہوتا ہے اس وقت اگر تخليل سے علان كيا جائے تو بعض دفعه مرض پورى طرح كنرول نبيس ہوتا۔ اس وقت چونكه تيز عضو كى تيز كى كونى كم كرنا ہوتا ہے اس لئے اس وقت تحريك كى جگه تسكين كرنا پرتى ہے جس سے وہ عضو جو كه بہت زيادہ تيز ہوتا ہے فورا بالكل كمز ورہوجا تا ہے اور اس كى تيز كى كى وجہ سے پيدا ہونے والے امراض وعلامات بھى ختم ہوجاتے ہيں۔ جب مرض پورى طرح كنرول ہوجا تا ہے تو پھر حسب سابق تحليل كر تحت علان كيا جا تا ہے۔ اس طرح مريض كمل طور پر تندرست ہوجا تا ہے۔ اگر شد يد امراض وعلامات ميں تسكين كر تاري نہ كيا جائے تو مريض مرتبى سكتا ہے۔ مثلاً

100

اگراعصابی عفلاتی مشینی تحریک کی شدید صورت میں ہیفنہ کی شدید علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مریض کوقے اور دست کثرت سے آتے ہیں۔ مریض کاجسم شنڈا ہو جاتا ہے اس دفت اگر تحلیل کے تحت عفلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ادویات دی جا کیں اور ہیفنہ پر کنٹرول نہ ہوتو پھرایسی حالت میں تسکین کے تحت غدی عضلاتی ادویات دی جا کیں جس سے فور أمرض کنٹرول ہو جائے گا۔





101

یادر کھیں اصولی اور صحیح علاج آپ صرف اس صورت میں کر کیتے ہیں کہ جس مفرد عضو میں تسکیدن ہے اس کوجنتنی جلدی ہو سکتر کر یک دے کر تیز کر دیں۔ جنتنی جلدی تسکیدن والے مفرد عضو میں تحریک پیدا ہوگی اتن ہی جلدی آ رام آ جائے گا۔ صرف مرض کی شدید حالت میں کنٹرول کے لئے خلیل کی بچائے تسکیدن کے تحت

علاج کریں۔ مرض کی شدید حالت میں مشروں کے لیے سیل کی بجائے کسلین کے تحت علاج کریں۔ مرض کی شدید حالت میں تحلیل اور تسکین کے تحت اددیات ملا کر بھی استعال کروائی جاسکتی ہیں جس سے مرض کی شدید صورت میں فوری کنٹرول ہوجا تا ہے۔ مثلاً

اعصابی عضلاتی تحریک کی شدید علامات کے لئے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی ادویات ملاکر استعال کروائیں مرض پرفورا کنٹرول ہوجائے گا۔ جب مرض پر کنٹرول ہو جائے تو پھر صرف تحلیل کے تحت عضلاتی غدی اوویات استعال کروا کر علاج مکمل کریں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر مریض حکیم صاحبان کے پاس اس وقت آتے ہیں جب دہ دوسرے مروجہ طریقہ ہائے علاج آزما چکے ہوتے ہیں اور دوسرے طریقہ ہائے علاج میں لا علاج ہونے کے بعد حکماء کے پاس قسمت آزمانے کے لئے آجاتے ہیں۔

اور دہ مریض جو کہ ڈاکٹروں کے پاس مہینوں اور سالوں علاج کرواتے رہے ہیں اور شفایاب نہیں ہوتے دہ جب حکیم صاحبان کے پاس آتے ہیں تو ان کی خواہش سے ہوتی ب کہ دہ دوا کھاتے ہی فور آٹھیک ہوجا کمیں اگرا پسے مریضوں کوفور افاقہ نہ ہوتو ایسے مریض علاج چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔خواہ دہ معالی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہی جو کہ اپناعلاج صرف حکیموں سے کرواتے ہیں۔

اس لئے میرا تو معمول بیہ ہے کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو اگر اس کو تکلیف زیادہ ہوتو میں ہمیشہ پہلے تسکین کے تحت دوادیتا ہوں یا پھر تسکین اور خلیل کے تحت دوائیں ملا کر استعال کر واتا ہوں جس ہے مریض کوفو رافاقہ ہوجاتا ہے جب مریض کوکانی افاقہ ہوجاتا ہے تو پھر خلیل کے تحت علاج کھمل کرتا ہوں جس سے مریض شفایا ب

كائيذ قانون مفرداعضاء

يوجات بي-

اكر مرض ابتدائى بواور تكليف بحى معمولى موتو بحريس بميشة خليل كابخت بى علاج کرتا ہوں۔ جس سے فوراً شفا ہو جاتی ہے۔ علاج کرتے وقت ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں مریض کے لئے جس تحریک کی ادویات تجویز کریں ای تحریک کے مطابق غذا کی بھی تجویز کریں اور مریض کونختی سے ہدایت کریں کہ وہ صرف یہی غذائیں پر ہیز کے ساتھ استعال کرے اس طرح بہت جلد شفا ہونے میں مدد ملتی ہے اگر مریض پر ہیز نہ کرے گا تو جلد شفانه ہوگی۔

102

قانون مفرداعضاء کے تحت علاج کرنے کے مخصوص کلیے كلينمما

	• 7	
4.4	علاج	مرض
دويات بري-	عصلاتي اعصابي	اعصابی غدی تحریک
	عصلاتي غدى ادوبه	اعصابى عضلاتى تحريك
ت سے کریں۔	غدى عضلاتي ادديا	عضلاتي اعصابي تحريك
ت ے کریں۔	غدى اعصابى ادويا	عصلاتي غدى تحريك
ت _ کری _	اعصابي غدى ادويا	غدى عصلاتي تحريك
دیات سے کریں۔	اعصابي عضلاتي اده	غدى اعصابي تجريك
	كلينبرا	
علاج	1.44	يرفن
ىصلاتى غدى ادويات بري-	عضلاتي اعصابي+	اعصابي غدى تحريك

	تيذقانون مفرداعضاء
مصلاتی غدی+ غدی عضلاتی ادویات ہے کریں۔ نبدی عین بدتہ میں	اعصابى عضلاتى تحريك
غدی عضلاتی + غدی اعصابی ادویات سے کریں۔	عضلاتي اعصابي تحريك
غدی اعصابی + اعصابی غدی ادویات سے کریں۔	عضلاتي غدى تحريك
اعصابی غدی+اعصابی عضلاتی ادویات سے کریں۔	غدى عصلاتي تحريك
اعصابی عضلاتی + عضلاتی اعصابی ادویات سے کریں	غدى عصابى تحريك
كليه نمبر	
علاج	برخ
غدی عضلاتی تحریک کی اددیات سے کریں۔	عصابى عصلاتى تحزيك
غدی اعصابی تحریک کی ادویات ہے کریں۔	مصلاتي اعصابي تحريك
اعصابی غدی تحریک کی ادویات سے کریں	مصلاتي غدى تحريك
اعصابی عضلاتی تحریک کی ادویات ہے کریں۔	مدى عضلاتي تحريك
عضلاتی اعصابی تحریک کی ادویات سے کریں۔	مدى اعصابى تحريك
عضلاتی غدی تحریک کی ادویات ہے کریں۔	عصابی غدی تحریک
مراض پرفوری طور پر کنٹرول کرنے کے لئے پہلے کلیہ نمبر	علاج كى صورت يس
ں ہوجائے تو پھر کلیہ نمبر ۲ کے تحت علاج کریں۔ جب	
چركليه نمبرا كے تحت علاج كريں-اس طرح علاج تمل) حدتک تھیک ہوجائے تو
	-82
بہ شدہ اور معمول مطب ہیں اور بھی خطانہیں گئے۔ان کا	ييتينوں کي مير يجر
مفرداعضاء کی ہر دوا تریاق ثابت ہوتی ہے اور پیچیدہ	فحت علاج كرف يرتظريه

علاج کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ! (۱) بچوں کی نبض اعصابی ہوتی ہے۔ (۲) جوانوں کی نبض عضلاتی ہوتی ہے۔ (۳) بورتوں کی نبض غدی ہوتی ہے۔ (۳) بورتوں کی عضابی ہوتی ہے۔ بچوں اور عورتوں کو عضلاتی اعصابی ادویات زیادہ مفید ہیں۔ جوانوں کو غدی اعصابی ادویات زیادہ مفید رہتی ہیں۔ بور ھوں کو عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی ادویات زیادہ مفید رہتی ہیں۔

بإداشت

104

یہ کلیہ صرف بچوں جوانوں عورتوں اور بوڑھوں کے مزاجوں کو مدنظر رکھ کردیا گیا ہے کیونکہ بچین سے لیکر بڑھا بے تک انسان کا مزاج بدلتا رہتا ہے اور علاج کے لئے نظر یہ مفرد اعضاء میں سب سے زیادہ مزاج کو مدنظر رکھا جاتا ہے مزاج کے بارے میں نظر یہ مفرد اعضاء کی تحقیق سہ ہے کہ بچوں کا مزاج اعصابی ۔ جوانوں کا مزاج عضلاتی 'عورتوں کا مزاخ غدی اور بوڑھوں کا مزاج اعصابی ہوتا ہے۔

یادر کھیں کی بھی عمر میں کوئی بھی انسان کی بھی تح یک میں مبتلا ہوسکتا ہادرائ کا علان ای تح یک کے تحت کیا جائے گا۔ جس میں وہ مبتلا ہوگا۔ مثلاً کوئی بھی بچہ جوان عورت اور بوڑ ھا شخص غدی تح یک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کا علاج اعصابی تح یک کی ادد یہ داغذ سے کیا جائے گا اور یہی اصول اور فطری علاج ہوگا۔ بالکل ای طرح کوئی بھی بچہ بوڑ ھا جوان یا عورت عضلاتی تح یک یا اعصابی تح یک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کا علان غدی تح یک کی ادد ہے کیا جائے گا۔

مجربات

بمطابق قانون مفرداعضاء

نظريد مفرداعضاء نے جس طرح تحقيق كر كے علم طب كو مخضراور جامع كر كے پيش كيا ہے - كويا سمندركوكوز ميں تبديل كرديا ہے اى طرح نظريد مفرداعضاء كى بي سب سے برى خوبى ہے كہ صرف نظريد مفرد اعضاء كى تح ديكات كے مطابق چند ادويات ہى ہوں تو نظريد مفرد اعضاء كا ماہر معالج ان سے ہر تتم كى امراض وعلامات كا يقينى علاج كرسكتا ہے۔ نظريد مفرد اعضاء كا ملم فارما كو بيا پچھلے صفحات ميں درج كيا گيا ہے يہاں پر پچھا بي تريد مفرد اعضاء كا ملم فارما كو بيا پچھلے صفحات ميں درج كيا گيا ہے يہاں پر پچھا بي تريد مغرد اعضاء كا ملم فارما كو بيا پخ تو كي قانون مفرد اعضاء نظريد مفرد اعضاء كى تريد مغرد اعضاء كا ملم فارما كو بيا پخ تو كي قانون مفرد اعضاء نے نظريد مفرد اعضاء كى تريد مغرد اعضاء كا ملم فارما كو بيا تكھ معالم ان مغرد اعضاء نے نظريد مفرد اعضاء كى تريد مغرد اعضاء كا كمل فارما كو بيا ترين قانون مفرد و اعضاء نے نظريد مفرد اعضاء كى تريد مغرد اعضاء كا كام ل فارما كو بيا ترين قانون مفرد اعضاء نے نظريد مفرد اعضاء كى تريد كي كوں تريد تريد قارما كو بيا كے علادہ ترين قانون مغرد و اعضاء کى تظريد مفرد اعضاء كى معالجين روزاند لاكھوں مريضوں پر اپنا شي شفا خانوں ميں فارما كو بيا كے نسخہ جات كے ساتھ ملاكر استعال كرداتے ہيں۔

مفرح شاهس

هو الشافي:

مربدآمله • اتوله مربد مربد سیب • اتوله کشیز ختک ۲ توله الا بخی خورد ۲ توله صندل سفید ۲ توله گل سرخ ۲ توله زرشک شیری ۵ توله چینی اکلو توکیب تیادی : تمام ادویات کوباریک پیں لیں اور پھرچینی کا قوام بنا کر تمام ادویات ملا

كائتذ قانون مغرداعضاء 106 لين تياري-خوراك: تين ماشد ٢ ماشدتك دن من تين باركمان سيل يانى كساته كلائي-فوالله: اعصابی عضلاتی نسخد ب تمام غدی عضلاتی اورغدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے تریاق ہے تمام غدی امراض میں ہر مریض کو دوسری ادویات کے ساتھ ضرور استعال کردائیں۔ ريقان _دل کی گھبراہٹ ہائی بلڈ پریشڑ پیشاب کی جلن دغیرہ تمام غدی علّامات کونورا دوركرتاب-اعصابی غدی تریاق تپ دق هوالشافي: مكثصى يحتوله ساكه بريان الحوله بلدى يرتوله شرمدادا يك توله قوکیب قیاری: تمام دواؤل کوعلیجده علیجده باریک پی کرشیر مدار ڈال کر۲۱ اگھنٹہ کھرل کر لیں بس تارہ۔ خوداک: ۱۰۲ تاایک ماشددن می تین بارکھانے کے بعدیانی کے ساتھ کھلائیں۔ فوائد: افعال واثرات من اعصابى غدى ترياق بعضلاتى غدى _غدى عفداتى اورغدى اعصابی تمام امراض وعلامات کے لئے تریاق ب روان ۔ تپ دق ۔ پیشاب کی جلن ۔ یرانی کھانی ۔خونی بواسیر ۔السرمعدہ جسم کے کسی حصہ سے خون آنا ۔ پھیڑوں سے خون آنا اس کی پہلی دوسری خوراک سے خون رک جاتا ہے۔ غدى اعصابي ملين هوالشافي: كندحك مفخى وكرام نوشادر ومكرام

كانتذ قانون مفرداعضاء 107 يودينه ۵ گرام اجوائن دليي ٥٠ گرام بيثهاسود ا• ۵ گرام تدكيب تيارى: تمام دويات كوباريك پي ليس. خوراك: ايك ماشديا ٢ ماشتك دن مي تين باركمان كر بعدياني كرساته كلائي-فواند: غدى اعصابى ملين بي تخير معده فيض كمانا كمان ك بعد تيز ابيت كى وجد اسمال آنا- چمرے پر چھائیاں ساہ دھے اور ترش وتیز ابیت دور کرنے کے لئے کامیاب دوا ب تما معضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے۔ غدى اعصابي مسهل هوالشافي: ست ملتصی اتوله سها كه بريال اتوله سقمونيا اتوله ريوندعصاره اتوله كالادانة اتوله تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي ليس اوريخ برابر كوليال بناليس-خوراک: اتا الولى دن مي تين باركھانے كے بعد يانى كے ساتھ كھلائيں-فوائد: تمام عضلاتی اعصائی عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے بحدمفيراوركامياب دواب-جوارش کمونی هوالشافي: مرچ سادا ژهائی توله ستده دولول سداب الوله يودينه اتوله چنى ايك كلو زيره سفيد واتوله S

کائیڈ تانون مفرد اعضاء تو کیب منیادی: تمام ادویات کوبار یک پی لیں اور چینی کا قوام بنا کر یسی ہوئی ادویات تو ام میں ملالیں بس تیار ہے۔ خود اک ساشہ تا ماشہ تک دن میں تین بار۔ فوا نہ: افعال واثر ات میں غدی اعصابی ہے عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تمام امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے عضلاتی تحریک کے مریضوں کو دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر ضرور استعال کروائیں۔

جوارش املی

هوالشافى:

آلو بخاراايك ياؤ		المى أيك پادً
منقیٰ •انولہ		اناردانه ۲۰ توله
سنڈ ھەتولە		پوديندد يې۵توله
آملده تولد		زرشك • اتوله
چينيساكلو	1911 - 19	ست ليمون ۵ توله

توکیب تیادی: المی اور آلو بخارا کورات پانی می بھگودیں میے دونوں ہاتھوں ۔ خوب ملیں اور کی کیڑ ۔ وغیرہ ۔ پن کر پانی حاصل کر لیں المی اور آلو بخارا کے پانی میں چینی اڈال کر توام بنالیں ۔ قوام بناتے وفت ست لیموں بھی ڈال دیں جب قوام بن جلائے تو باقی ادو یہ بار یک پی کر ملادیں اور اچھی طرح یکجان کر لیں ۔ بس جوارش المی تیار ہے۔ خود اک ۔ سماشہ ۔ ایک تولہ تک کھانے کے بعد مریض کو چٹادیں یا پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ خود اک ۔ سماشہ ۔ ایک تولہ تک کھانے کے بعد مریض کو چٹادیں یا پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ خود اک ۔ سماشہ ۔ ایک تولہ تک کھانے کے بعد مریض کو چٹادیں یا پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ خود اک ۔ بی دل خوش ہوجا تا ہے۔ خود اک ۔ بی دل خوش ہو جا تا ہے۔

syed imran sherazi

كائيذ قانون مفرداعضاء 109 ید جارکوئی اور دوامفیز ہیں۔ · زبان پر لکتے ہی پیاس ختم کردیتی ہے۔ حاملہ کی تے اور بچوں کی تے اور دست میں فورى اثر ب- يتمام اغصابى غدى اوراعصابى عصلاتى إمراض وعلامات ك ليح كامياب دوا ہے۔ اعصابی امراض وعلامات میں دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر ضرور استعال کروائیں۔

غدى اعصابى هاضم

هوالشافى: مرج سادايك توله سنڈ ھایک تولہ نوشادر شيكرى أيك توله فكفل درازا يكتوله گندهک آملد ساد ۲ توله يودينة اتوله سونف م توله يثحاسوذ اسمتوله نمك خوردني ٨ توله ريوندخطائي مهتوليه تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي ليس تيار --خوراک: ۳رتى سے ايك ماشتك دن ميں تين باركھانے كے بعد يانى كے ساتھ ديں۔ **فواند**: ترش ڈکاریں - تیز ابیت - پیٹ میں ہوا کا گولہ-ریاح - بد^{ہض}می پیٹ درد _ بھوک کی کی قبض _احتلام پرانا بوجہ ضعف ہضم _ضعف معدہ وجگر کے لئے انسیر ہے۔ تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے کامیاب دواہے۔ رِقان کے مریض کونہ دیں۔ اعصابى غدى هاضم هوالشافى: سها كه برياں ۵ توله تجي کھارہ تولہ الا پخی کلاں واتولہ

كائيذ قانون مغرداعضاء

توکیب تیاری: تینوں ادویات کوبار یک پی لیں۔ خوراک ایک ماشہ سے ۳ ماشہ تک دن میں تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دیں۔ خوافد: اعصابی غدی ہاضم ہے۔ پیٹ میں مروژ ریاح کی زیادتی معدہ کی جلن اور تمام عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے۔

110

سفوف ليكوريا

عوالشافی: مازوایک تولہ مازوایک تولہ سپاری کاتفی اتولہ کشتہ مرجان ایک تولہ توکیب تیادی: تمام ادور یکو علیحدہ علیحدہ پیں کر ملالیں۔ خوداک سر تی سے ایک ماشہ تک دن میں تین بارکھانے سے قبل دودھ کے ساتھ کھلا کیں۔ فوالد: عضلاتی اعصابی افعال دائرات کا حال نخہ ہے کثرت سے سفید رطوبت کا بہنا۔ دل کا کمز در ہونا۔ موٹا پا۔ اعصابی کمز دری ادرخون کی کی میں بے حدمفید ہے ہر قسم کے لیکور یا کے لیے کا میاب دواہے۔

ترياق كزاز وتشنج

جائفل أيك توله

هوالشافي:

جلوتر ی ایک توله عقرقر حاایک توله سنبل الطیب ۲ توله

فلفل دراز۲ توله حلتیت۳ توله عرق بهن • اتوله

قوکیب تیاری: تمام ادویات باریک پی لی اور عرق بس می گوند کر بے برابر کولیاں

كانيذقانون مفرداعضاء 111 بناليں۔ خوراك: ايك تا اكولى دن مي تين بار-فواند: عصلاتي غدى نسخد ب مرقتم ك كزاز اور شيخ مي ترياق كادرجه ركفتا ب- درره فورا رک جاتا ہے اس کے علاوہ مرگ - تبخیرہ معدہ ریاح شکم اور تمام اعصابی غدی اور اعصابی عصلاتی امراض وعلامات کے لئے تریاق ہے۔ غدى عضلاتي هاضم هوالشافي: نوشادر تفيكرى ايك توله نمك خوردني ساتوله انزروت متوله تركيب تيارى: تيول ادويات كوباريك بي لير. خوراک: سرتی سے ایک ماشتک دن میں تین بارکھانے کے بعد یانی کے ساتھ کھلا میں۔ فوائد: غدىعضلاتى باضم بجسم كى ترشى وتيزابيت _رياح كى زيادتى اوراعصابى عضلاتى ادر عضلاتی اعصابی تحریکوں کی وجہ سے ہونے والے معدہ کے امراض کے لئے تریاق ہے۔ اعصالی عضلاتی عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تمام امراض کے لئے مفید ہے۔ غدى اعصابى شربت 10112 هوالشافي: محم کانی۱۱۲_اتولہ بادیان۱۱۲۲ توله ثناعي ۵ توله افتيون٢/١١٢ توله چینی۱/۱_الکو فحم كوث ٥ توله تركيب تيادى: تخم كوت كوكر _ كى يولى من باند حلي باقى تمام ادور كوا، - اكلو پانى میں بھگودیں مسبح کوا تناجوش دیں ۔ کہ پانی تین پاؤرہ جائے پھر پانی کو چھان کرچینی ملاکر

كاتيد قانون مفرداعضاء

شربت کا توام بنالیں۔ خوداک : ۱۰ ۲ اور ۲۵ تولہ تک دن میں تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا نمیں۔ خواف : غدی اعصابی شربت ہے۔ برتان ۔ درد پنہ وجگر۔ پتھری گردہ مثانہ میں ہو یا جگر میں ہو۔ چند دنوں میں ریزہ ریزہ کرکے پیشاب کے رائے نکال دیتا ہے اگر اس کے ساتھ سفوف پتھری تو ژ دیا جائے تو بہت جلد پتھریاں خارج ہوجاتی ہیں۔

سفوف پتھری توڑ

هوالشافى:

سو ژاپائي کارب اتوله نمك خوردني •اتوله مغزجمالكونة اتوله ستكدانه مرغ واتوله توکیب تیادی: جمالگو شرکوباریک پی لیس اور دوسری یسی ہوئی۔ ادویات ملاکر ۲/۱ گھنٹہ کھرل کرلیں تیارہے۔ خوراك: ٣رتى ٢- ماشتك دن مي تين بار-فوائد: غدى اعصابى بعضلاتى اعصابى اورعضلاتى غدى تمام امراض وعلامات ك لئ بے حد مفید ہے پھری خواہ گردہ مثانہ پنہ دجگر میں ہوریزہ ریزہ ہو کر نکال دیتا ہے۔ غدى اعصابى مرهم هوالشافى: كجلى يارها ست يودينه ويزلين • اتوله 2والى اتوله توكيب تيارى: تنور كواچى طرح ملالس -فوالد: غدى اعصابى مرجم ب برقتم ك كند - زخم - تاسور - تعكند ر چور ب بعنيا -خارش۔دھدر۔ چنبل کے لئے بے حد مفید ہے۔ تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی

كاتيذ قانون مفرداعضاء

جلدی امراض وعلامات کے لئے کامیاب دواہے۔

اعصابی غدی سفوف منہ کے چھالوں کے لئر

هوالشافي:

زیرہ سفید ۲ تول **ترکیب تیاری**: دونوں کوعلیحدہ علیحدہ باریک پی کرملالیں۔ **خوراک**: ایک ماشدون میں تین بار۔ **خواند**: اعصابی غدی فوائد کا حال نسخہ ہے۔ تیز ابیت کی وجہ سے یاصفرا کی وجہ سے مند میں چھالے یا آ بلے ہو گئے ہیں۔ توالی صورت میں یہ نسخہ تریاق ہے۔ منہ میں لگاتے ہی شند پڑ جاتی ہے۔

خوردنی طور پر عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے۔

حب شفاء

هو الشافي:

خشخاش اتولہ بزرائیخ اتولہ سورنجاں شیری اتولہ اسرول اتولہ ترکیب تیاری: تمام ادویات کوبار یک پیں لیں۔ خوراک: سمرتی سے اماشہ تک دن میں تین بار۔ خواند: اعصابی غدی نخہ ہر ہتم کے درد دورکرنے کے لئے بے حد مفید ہے۔ پیشاب کی جلن۔ رکاوٹ اور درد کو دورکرنے کے لئے فوری اثر۔ ہے۔ دردگردہ اور بلڈ پر میں بے حد مفید ہے تمام عضلاتی غدی غدی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے۔

كائيذ قانون مفرداعضاء اعصابني غدى مسهل هوالشافي: کل سرخ دوتوله سناءکمی اتولہ سونف ايك توله املتاس ۵ توله ياني ايك كلو **خوراک**: ایک ماشتا ۳ ماشددن میں تین بار۔ فوائد: اعصابي غدى مسبل نسخد ب عضلاتى 'غدى عضلاتى غدى اعصابي تمام امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے۔ دل کی طبراہ یہ بچینی ۔ سینہ کی جلن پیشاب کی جلن وغيره كے لئے خصوصيت سے مفيد ب-تركيب تيارى: المتاس كا كودا تكال كرباقى دواؤل ك ساتھ ملاكرزات كويانى مي بھكو دیں منج اس قدر جوش دیں کہ یانی آ دھارہ جائے۔ پن چھان کررکھ لیں اور نیم گرم دن میں تین باریلائیں۔ فوائد: اعصابی غدی بے ضرر مسبل ب تمام عضلاتی غدی اور غدی اعضلاتی اور غدی اعصابی امراض دعلامات کے لئے بے حد مفید ہے تپ دق کے وہ مریض جن کوشد پر قبض رہتی ہوان کے لئے بے حد مفید ہے۔ رقان کے لئے حد درجہ مفید دوا ہے۔ چندخوراکوں سے بی صفراخارج ہوکر مریض کوسکون آجاتا ہے۔ اعصابي عضلاتي شربت هوالشافي: الابجى خوردايك توله صندل سفيد ٢٠ ١١ توله

جن ۵ توله

صندل سفید۲\۱_۲ توله گلگاوُزبان۲ توله چینی ایک کلو

115

تركيب تيارى: تمام ادويات كو ذير هكلوياني ميں رات كو بعكوديں من اتناجوش ديں كر یانی تین یا دَرہ جائے پھر پانی بن لیں اور پھوک علیحدہ کردیں۔ یانی میں چینی ملاکر شربت کا قوام بناليس-خوراك: اتوله ٢٠٠٠ توله تك دن مي تين بار-فوائد: اعصابي عضلاتي شربت بتمام غدى عضلاتي اورغدى اعصابي امراض علامات ے لئے بے حد مفید ہے۔ دل کی تبھراہٹ بے چینی۔ پیاس کی زیادتی۔ پیشاب کی جلن۔ ر قان وغيره تمام غدى امراض كے لئے بہت مفيد ہے۔ اعاده شياب هوالشافى: كشة مرجان اتوله كشة تانبداماشه كشة عقق اتوله خوراک: ۲ جادل تا ایک رتی جمراه خمیره مرداریددن میں دوبار کھانے کے ایک گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ فواند: عضلاتی غدی نسخہ ب قلب وعضلات کوفورا تحریک دیتا ب ضعف قلب کے لئے بے جدمفیرے۔ جریان - نامردی - لیکوریا - اعصابی دمداور زند زکام دائمی وغیرہ کیلئے بے حد مفید ب چندخوراكين بى ايناار ظامركرتى ين-ترياق بلڈ يريشر هوالشافي: صندل سفيدا يك توله ست گلوایک توله

كاتيذ قانون مغرداعضاء 116 تشيزا يك توله كشة مرجان أيك توله كل رخ اتوله کشتہ جائدی ایک تولہ توكيب تعادى: تمام ادويات كوعليحده عليحده باريك بي كرطاليس اوراجي طرح كحرل کرلیں۔ **خوداک** ۳ رتی سے ایک ماشد تک دن میں دونین بارمربدآ ملد یا سیب کے ساتھ ۔ کھانے ے پہلے کھلائیں۔ **خواند**: اعصابی عضلاتی افعال واثرات کا حال نسخہ ہے بے حد مقوی دماغ ہے۔ غدی عصلاتی اورغدی اعصابی تمام صفرادی امراض وعلامات کے لئے تریاق ہے۔سرچکرانا۔دل دھڑ کنا۔دل کی تجمراہٹ۔ ہائی بلڈ پر یشراورجریان خون کورد کنے کے لئے بے حدموثر ہے۔ سدا جوانی حوالشافي: ثعلب مفرى فاتوله موسلى سفيده توله مغزينيه دانه فاتوله چعلكا سبغول ٥ توله **توکیب نیادی: ب**ہلی تیوں ادویات کو باریک پیں لیں پھر چھلکا اسبغول ملالیں _ بس تيارب خوداك: ايك تولد سفوف حسب ضرورت دود ه م كيريكا كركها مي -حسب ضرورت كمى اور چينې بھي ملاليں۔ فوالد: اعصابي غدى افعال واثرات كاحال نسخد ب-سرعت انزال احتلام - ضعف باه عام جسمانی کمزوری۔منی کی خرابی۔منی میں کیڑوں کاختم ہوتا۔وغیرہ کے لئے بےحد مفید بصرف ایک ماہ کے استعال سے منی اور منی کے کیڑ بیکٹر ت پیدا ہوجاتے ہیں۔ Imran sherazi

كاتيد قانون مفرداعضاء

دیسی کونین هوالشافي: بهطوى بريان اتوله مغزقتم كرنجوه اتوله ست گلوه توله تركيب تيارى: تنون ادويات كوباريك پي كرسفوف بناليس اور بو يسول جريس-خوراك: اتا اكيول دن من تين بار - كمان ح بعد يانى يا جائ كساته كملائي -فوائد: عضلاتی اعصابی نسخد ب-تمام اعصابی اورغدی بخاروں کے لئے بے حدمفید ب صرف تین دن کے استعال سے ملیر یا بخارا درصفرادی بخارد در ہوجاتے ہیں۔ اعصابي غدي ملين هوالشافي: ست تلحى ٣ توله سها که بریاں ۲ تولہ گذرهک آلمد سار ۳ توله تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي لي بس تيار --خوراک: ۳رتى تاايك ماشدون مي تين بار - كھانے كے بعد پانى كے ساتھ كھلا سى-فوالد: اعصابی غدی ملین ہے۔ جسم میں حرارت وصفرا کی زیادتی۔ برقان پیچش ورم جسم۔ قبض _غذا کھانے کے بعدجسم کی حرارت کا بردھ جاناد غيرہ تمام غدى عقلاتى 'غدى اعصابى اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے غدی سوزش سے رہنے والی بلکی حرارت ك لخ يعدمغد -غدى عضلاتي ملين اجوئن دیسی ۳ تولیہ هوالشافي: بمك خوردني اتوله

117

گندهک آمار سار ۳ توله توکیب تیاری: تمام ادویات کوبار یک پی لیں۔ خوداک: سرتی سے ایک ماشتک دن میں تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ خواند: غدی عضلاتی ملین ہے عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک کی تمام علامات کے لئے بے حد مفید ہے اگر عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہروقت ہلکی ہلکی حرارت رہتی ہو۔ تو اسے چند دنوں میں ٹھیک کردیتا ہے ۔ ہلکا ملین ہے۔ ریاح کی پید اکش اور تیز ایت کا خاتمہ کرتا ہے۔

118

عضلاتى اعصابى ملين

آملتاتول

هوالشافى:

بليله ساه بريان " توله

المدانونه گذرهک آمله سار ۳ توله

تركیب تیارى: تمام ادویات كوبار یک پی لیں۔ خوراک ایک ماشة تا ماشة تك دن ميں تين بار كھانے كے بعد پانى كے ساتھ كھلا كيں۔ فواند عضلاتى اعصابى لين ہے جسم ميں بلغم كى زيادتى - اسمال موٹا پا - نزلدزكام دردس-منه كاذا كفته كھارى رہنا - اعصابى سوزش سے ہوتى والى بلكى حرارت كے لئے بہت مفيد ہے تمام اعصابى غدى اور اعصابى عضلاتى امراض وعلامات كے لئے مفيد ہے۔

عضلاتي اعصابي مقوى

هوالشافي:

کشت صدف مرداریدی اتوله کشته پوست بیفه مرغ ایک توله-ترکیب تیاری: دونوں کشته جات کوط کر کھرل کرلیس - بس تیار ہے-خوراک: ۲رتی - ۲رتی تک دن میں تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں

كانيذ قانون مفرداعضاء

موالد: عفلاتی اعصالی مقوی ہے ۔ پیٹاب کا بار بار آنا۔ مثانہ کی کروری پیٹاب ک قطر ۔ خَارج ہوتے رہنا۔ جریان ۔ لیکوریا اور ضعف باہ دغیرہ تمام اعصابی غدی اعصابی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض دعلامات کے لئے بعد مفید ہے۔ مضوف حضوح موالشافی قوال معنی اتولہ کشیز اتولہ تریہ سفید اتولہ کشیز اتولہ تریہ مفید اتولہ کشیز اتولہ نیں ماردویات کویار کی پی لیں تیارہے۔ خوال اتا تا ماشی دو پہر شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ خوالہ دل کی تھراہ نہ بے چینی ، ہاتھ پاؤں کی جلن اور تمام غدی امراض کے لئے میں دواہے۔

شاہ کار مجربات کے عنوان سے یہاں پرایے مجربات دیئے جارب ہیں جو کہ نظرید مفرد اعضاء کی تحریکات کے مطابق تر تیب دئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر میرے معمول مطلب ہیں اور اکثر میر بے بزرگوں اور دوستوں کے معمول مطب ہیں ان میں سے مرتخہ زروجوا ہرات میں تولنے کے قابل ہے ان میں سے اکثر نسخ میں نے اپنی کتاب چوٹی کے مجربات میں سے یہاں پر درج کئے ہیں۔ جو کہ کتاب ہذا کے قارئین کے لئے خصوص تحفہ ہیں۔ چوٹی کے مجربات نامی کتاب چوٹی کے مجربات کا انمول خزانہ ہے۔

syed imran sherazi

كاتيذقانون مفرداعضاء 120 فير خاص هو الشافي: سفوف ملتصي ۵ توله اجوائن ديمي ۵ توله يودينه فتوله باديان ۵ توله زيره سفيده توله نوشادره توله - نمك سانجرة توله زبرمبره خطائي هتوله 🖊 داندالا بَحَى خورد ٥ توله اسبغول ثابت ۵ تولیہ توکیب تیاری: تمام ادویات کو ماسوائ اسبغول کے باریک پی لیں اور اسبغول ثابت ڈالیں بس تیارہے۔ خوراك: دوتاتين ماتدن مي تين بار كمان كربعديانى كساته كطائي -فوائد: اعصابي غدى افعال واثرات كاحاملة نسخد ب-نظام ہضم کی اصلاح کرنے کے لئے موثر دواب تیز ابیت معدہ اور بائی بلڈ پریشر کے مریض بلاخطراستعال کر سکتے ہیں۔ پیسفوف معدہ آنتوں اورجگر کی اصلاح کر کے گیس تبخیر معدہ - ہاتھ یاؤں کی جلن السر معدہ - بدہضمی ۔ متلی تے - پیٹ درد ۔ گھبراہٹ بے خوابی اور معدہ اور سینہ کی جلن کے لئے بے حد مفید دواہے۔ عضلاتی غدی غدی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے اگر مریض کے معدہ میں السر ہوتو اس کے ساتھ سفوف السر استعال کروائیں۔ سفوف السر هوالشافى: سفوف كيلاخام فاتوله چھلكااسبغول ٥ توليہ سغوف ملثهمي هتوله انبه بلدى داوله

تركيب تيارى: چىتلكا سبغول كرواتمام ادويات كوبار يك چين ليس راور چىلكا سبغول خابت ملاليس بس تيار ب خوداك اتا ماشددن مين تين مرتبد - كھان سے پہلے يا ايك كھند بعد پانى كرماتھ كلا كيں -فوائد : اعصابى غدى افعال واثر ات كا حال نے جالسر لينى معده اورانتز يوں كر ذخوں وغيرہ كے ليح بہترين دوا ب اس كے علاوہ عضلاتى غدى اور غدى عضلاتى معده اور انتز يوں كى يماريوں كے ليح بحد مفيد ب۔ حابس كل انارايك تولد چھلكا انارايك تولد

سيارى دهنى ايك توله سارى سفيدايك توله يوست زرد بليله ايك توله نارجيل دريائي أيك توله الا پخی خوردایک توله مائيں ايک توله گوند کتیر اایک توله كل مرخ ايك توله كمرس ايك توله مازدايك توله كوزة مصرى • اتوله كهرماشمعي أيك تؤليه تركيب تيارى: سب ادويات كوما نندغبار باريك پي ليس-خوراك: "ما شير ماشيدن مين دوتين باردود هاشربت انجار كساته - كهان -بہلے کھلائیں۔ فوالد: عضلاتی اعصابی حابس نسخد ہے جسم کے کسی بھی حصہ سے خون کے آنے کورد کنے کے لئے بے حد مفید ہے کثرت حیض کے لئے لاجواب ہے ایک ہی روز میں مرض کا خاتمہ کر دیتا ہے حالت حمل میں اگر خون آنے لگ جائے تو بھی شربت انجباریا دودھ کے ساتھ استعال کردائیں۔اس کے علاوہ ہر قتم کے لیکوریا کودور کرنے کے لئے بھی موثر ہے۔

قرص هاضم

هوالد اجوائن دلی ۵ توله زنجیل ۵ توله قلفل دزاز ۵ توله ادرک تازه ۵ توله نمک سانجر ۱۰ توله محک مدارتازه ۲۰ توله ست پودینه ۳ ماشه

توکیب تیادی: تمام ادویات کو باریک پی لی ۔ گل مدار (تازہ علیحدہ کوٹ لیس پھر ادویات میں ملاکرکوٹیں اورگولیاں کا بلی چنے برابر بنالیں۔ خوداک اتا اگولی دن میں تین بار۔ فواند: غدی اعصابی ہاضم ہے۔ پیٹ درد۔ متلی۔ انچارہ۔ بدیضی گیس۔ بھوک کی کی۔ کمزوری معدہ دغیرہ معدہ کے امراض کیلئے بے حدمفید ہے

روغن برقى

هوالشافى:

شتگرف رومی ایک توله زردی بیند مرغ ۸عدد توکیب تیادی شتگرف کو باریک پی لیس اور زردی بیند مرغ کے ساتھ اچھی طرح ملا لیس جب دونوں اچھی طرح مل جا کیں تو کسی کڑچھی میں ڈال کر پنچ تیز آگ جلا کیں اور جب بیمر کب جلنا شروع ہوجائے تو کسی چچ وغیرہ ہے دباد با کرتیل نکال لیس بس تیار ہے۔ خوداک صرف ایک قطرہ مریض کوچینی میں ملا کر کھلا کیں اور درد دالی جگہ پر مائش بھی

syed imran sherazi

خواند: عضلاتی غدی روغن ہے بیر دوخن نمونیہ کے لئے تریاق ہے بچوں کوچینی میں پی کر آدھی خوراک دیں اور چھاتی اور پسلیوں پراس کی مانش کریں فورا شفاہو گی۔

حب گردہ

هوالشافى:

ازراقی مدبر ۲ توله معمر زرد ۲ توله سور نجال تلخ ۲ توله تربد بحوف ۲ توله قر نفل ۲ توله

توکیب تیارى: تمام ادویات كوباريك پي كرتمور اسا پانى ملاكر كمويس اور پن برابر گوليال بناليس-

خوراک: ۱تا۲ گولی صبح وشام اور درد کی شدت میں پندر ، پندر ، منٹ کے وقفہ سے دیں فورا افاقہ ہوگا۔

فواند: تین یادو ہفتہ تک کطائیں دردگردہ بالکل ختم ہو جائے گا عضلاتی غدی افعال واثرات رکھتا ہے دردگردہ ریاحی وجع المفاصل ریاحی کے لئے اکسیر ہے تمام اعصابی غدی اعصابی عضلاتی اورابتدائی عضلاتی اعصابی امراض وعلامات کے لئے بہترین دواہے۔

اكسير معده

هوالشافي:

اجوائن دیکی۲۰ توله سوئ۲۰ توله سیاه نمک۲۰ توله ست پودینه۳ ماشه

كانتذقانون مغرداعضاء 124 خوداك: ايك ماشه ٢ ماشتك دن من تين مرتبد كمان ك بعديانى كساته كلائي-فوالد: غدى اعصابي نسخد ب درد معده ورم معده عيس - سيندى جلن متلى ق بالخصوص حاملہ کی تے اور اسہال میں بے حد مفید ہے۔ بیفنہ میں بے حد موثر ہے اس کے استعال سے بھوک خوب لگتی ہے۔ کھایا پیا ہمضم ہوجا تا ہے۔عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی معدہ کامراض کے لئے مفید ہے۔ لىكورين هوالشافي: كشةصدف اتوله رال سفيد اتوله چيني متوله توكيب تيارى: سب ادوريكونهايت باريك پي ليس - تاري-خوراك: ايك تابيه ماشددن يس دوتين باردوده ك ساته الرقيض موتو دوده كاستعال زیادہ کریں۔دوا کھانے سے پہلے کھلائیں۔ فوائد: عصلاتی اعصابی افعال دائرات كا حامل نسخد ب ليكوريا كى مرضم كے لئے بے حد مفيد ب بالخصوص اعصابي ليكوريا ت لتح بجترين ب ليكوريا نيا جويا يرانا اس ي مسلسل استعال سے ختم ہوجاتا ہے۔ حب مفلظ هوالشافي: بھوچیلی ایک تولیہ سمندرسوكها يك توله مغز فخم تمر مندى اتوله شير برگده توله توكيب تدارى: بيلى تينون ادويات كاسفوف بناكرشير بركدملاكري برابركوليان بنالين-خوراك: اتا الولى صبح وشام نهارمنه دود ه المحساته كطلامي -

كاتيذقانون مفرداعضاء

فواند: عصلاتی اعصابی مغلظ کولیاں میں منی کو شہد کی طرح گاڑھا کرتا ان کا اونی کام ب- ایک ہفتہ کے استعال سے جریان رک جاتا ہے کمل کورس تین ہفتہ کردائیں۔ کثرت بول - سلسل بول ادر کر دول کی کمزوری کے لئے بہترین میں۔ کثرت احتلام کے لئے بھی بے حد مفید میں۔

حب خاص

هوالشافي:

کچلہ مد براورروغن زردا تولہ مغز تم مندی اولہ توکیب تیادی: کچلہ کوروغن زرد میں کی توے پر بھون لیں جب سرخ ہوجائے تو گرم گرم ہی کوٹ لیں۔ پھر مغز تمر ہندی ملا کربار یک پیں لیں۔اور شہد ملا کر چنے برابر گولیاں بنالیں۔

خوراک اتا الولی روزاندرات کوسوت وقت دیں۔دودھ کے ساتھ کھلائیں۔ فوالد عضلاتی غدی مقوی نسخہ بتمام اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی امراض کے لئے بے حد مفید ہے۔ جریان ۔ لیکوریا۔ تا مردی۔ احتلام ۔ منی کا پتلا ہوتا۔ کمزوری بدن وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔

حب نور انی

هوالشافي:

مصرايك توله ميراكسيس ايك توله مركمي أيك توله توکیب تیاری: تینوں ادویات کو باریک پیں لیں اور بفتر رضرورت پانی ملا کر چنے برابر گولیاں بنالیں۔ خوراك ايك ٢ كولى من وشام مراه فرد محات ٢ بعد كلاتي -

فوالد: عضلاتی غدی افعال واثرات کا حال نسخہ ہے۔ بندش حیض کے لئے بہترین دوا ہے۔ اگر حیض کافی عرصہ سے بند ہوتو ماہواری سے ایک ہفتہ قبل شروع کرا دیں۔ اگر حیض درد سے رک رک کرآتا ہوتو بھی بیددوا حیض سے پہلے شروع کرادیں۔ حیض کھل کرآ جائے گا۔

حب گیس ٹربل

هوالشافى:

کچلہ مد برایک تولہ دار جینی ایک تولہ لوتک اتولہ عقر قر حااتولہ مرخ مرج اتولہ رائی ایک تولہ توکیب تعادی: تمام ادویات کوبار یک پیں لیں اور کولیاں چنے برابر بنالیں۔ خوراک ایک تا ۳ کولی دن میں تین بار۔ فوالد: عضلاتی غدی خواص کا اسیر نسخہ ہاعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی کیس ٹریل کے لئے اسیر درجہ رکھتا ہے پہلے ہی روز شفا ہونا شروع ہوجاتی ہے اس نسخہ ہے گیس ٹریل کے ایک اسیر درجہ رکھتا ہے پہلے ہی روز شفا ہونا شروع ہوجاتی ہے اس نسخہ سے گیس ٹریل کے ایک اسیر درجہ رکھتا ہے پہلے ہی روز شفا ہونا شروع ہوجاتی ہے اس نسخہ سے گیس ٹریل کے اور اعسابی غدی اور اعسابی عضلاتی

كندن

هوالشافى:

برگ نیم ۲ توله مرچ سیاه ایک توله مصطلی رومی اتوله مصری ایک توله

گندهک آملدساره توله نگند بابری ۲ توله الا پَچُ خوردا یک توله داندالا پَچُ کلال ایک توله

كاتيذ قانون مفرداعضاء

تركیب تیارى: تمام ادویات كوبار یک پی لی بس تیار ہے۔ خوراک سرتى تاایک ماشدن ميں تين مرتبد کھانے کے بعد کھلا ئيں پانى يادودھ کے ساتھ۔ فواند : غدى اعصابى مصفى خون بتمام مصفى خون ادویات سے بہتر ہے۔ برعضلاتى اعصابى اور عضلاتى غدى جلدى امراض وعلامات کے لئے مجرب ہے۔ بہت جلدا تركن والا بہترين نسخہ بي بواسير کے لئے بھى حددرجہ مفيد ہے۔

هوالشافي:

رسونت عمده قاولہ گذرهک آملہ مار قاولہ ترکیب تیاری: دونوں ادویات کونہایت پیں لیں بڑے کپیول بحرلیں بس تیار ہے۔ خوراک: ایک یا اکپیول دن میں تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ فوائد: غدی اعصابی انتہائی مصفی خون دوا ہے عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی تمام جلدی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے۔ بواسیر خونی وبادی کے لئے کامیاب دوا ہے انتہائی آسان اور لاجواب مصفیٰ خون نی خہ ہے۔ تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے۔ تمام عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی امراض وعلامات کے لئے مفید ہے۔

هوالشافي:

بارى رخ جعلكانار كشة بيضهرع JU ما ئىس ھۆلە كشةصدف برايك ادهائي توله كمرس ۵ توله گل يستە ھاتولىر ستجراح واتوله بليله ساه الوله

كاتيذ قانون مفرداعضاء تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي كرسفوف بناليس اور بز يسيول بحرليس-خوراك: ٢ كيسول فيح دشام دوده كساته - كهاف تيل كملائي -فوائد: عصلاتى اعصابى ليكوريا بندنسخد ب مرتم ي ليكوريا كيليج ب حد مفيدادر كامياب دواي S. S. Standard هاضوم Station, Children description هوالشافي: نوشادر شيكرى اتوله نمك ساد اتوله مرج سادايك توله زيره سفيدا كم توله تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي ليس تياري-خوراك: اتا اشكان كربعديانى كرماتهدي-فوالد: غدى اعصابى باضم نخدب - ترش ذكارون كا آنا - تيز ابيت معده - بديم مى - بحوك کی کمی _معدہ کی تمام عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی علامات کے لئے بے حد مفید ہے۔ عضلاتی غدی تحریک کی دجہ ہے گیس ٹریل کے لئے نہایت مفیداور مزیدار چورن ہے۔ سفوف امساكى within the second mounded. هوالشافي: بخم ريحان اتوله سفوف عقرقر حاعمده ذيز هتوله چيني واتوله مزاج اعصابي غدى ب-تركيب تيارى: تيون ادويات كونهايت باريك پي ليس تيار ب-خوراك ٢ ماشدنوجوان ٢ ماشه جوان اور٩ ماشداد جيرعمرا فراد كے لئے۔ فوالد: بہترین مسک بوقتى ضرورت کے لئے جماع بروتين گھنٹہ پہلے دودھ کے

ساتھاستعال کریں۔دوا کھانے کے بعد اگر خشکی محسوس ہوتو صرف دود ھ پیکس اگراس رات

كاتيذ قانون مفرداعضاء 129 کھانانہ کھائیں بلکہ صرف دود ہوہی پرگزارہ کریں توبے حدامیاک پیدا ہوگا۔ سفوف شفأ مغلظ هوالشافي: تاكمكها ندواتولير كشيز خثك واتوله چيني•اتوله زيره سفيد واتوله كشة للعي عمده ايك توليه تركيب تيارى: تمام ادويات كونهايت باريك پي لي - بس تيار --خوراک: ۲ ماشددن میں دونتین بار - خال پیٹ پانی یا دود ھے ساتھ کھلائیں -فواند: اعصابی غدی مغلظ نخد ب منی کوب حد گاڑھا کرتا ہے جریان احتلام اور سرعت انزال ذکاوت حس وغيره _نوجوانوں سے امراض سے لئے بے حدمفيد ہے۔ دس روز کے كورس ف شفا موجاتي ب-عضلاني غدى سفوف بستر پر پیشاب کرنے والوں کیلئے هوالشافي: فخم ومل واكرام دارچيني•۵گرام تركيب تيارى: دونوںكوباريك پي ليس-خوراک: آدھتاایک گرام دن میں تین بار پانی سےساتھ کھانے سے بعد کھلا سی - اسال ے کم عروالے بچون کے لئے بيخوراک ہے۔ اگر مریض ۱۰ سال سے زیادہ عمر کا ہوتو چردار چینی اور تخم حرف برابر وزن لیں اور خوراك اكرام كروي-فوالد: عضلاتی غدی خواص کا حامل ہے بستر پر پیشاب کرنے والے بچوں اور بروں کے

130

كانيذقانون مغرداعضاء لتے بہترین تخد باس کے علاوہ پیشاب کا بکثرت اور یانی کی طرح سفید آنا کے لئے بے حد مفيد ب- تمام اعضائي غدى اوراعصائي عضلاتي امراض وعلامات كے لئے مفيد ب-سپر مقوی باه کیبیسول

هوالشافي: للتكنى ستوله اجوائن دیسی اتولہ لوتك ۲ توله گندهک آ لمدیرادایک تولد كشة فتكرف ايك توله يماب أيك توله توكيب تيارى: سيماب اور كندهك كوملاكر كمرل كري جب كجل موجائ يدتقريا سیماب اور گندهک کو۱۱ ا گھنٹہ سلسل کھرل کرنے سے تیار ہو گی توباقی دوائیں بھی شامل کر کے خوب کو ٹیس - جب باریک سفوف بن جائے تو تیار ہے اور بدے کیپسول بھر لیس -خوراك: اتا اكيسول دن مي دوباره دوده كساته كهان ك بعد كهلا تي-فوالد: عصلاتى غدى مقوى باونسخد بمرداند كمزورى -جريان - نامردى - وغيره ك لي ب صد مفيردوا ب-

سیر مقوی باه گولیاں

هوالشافي:

زعفران خالص اتوله كيلدر برتاتولد كشة فتكرف اتوله ورق نقر وحسب ضرورت -قد تعديد قداري: تينون ادويات كونهايت باريك بي ليس اورتموژ اساشهد ملاكرم باه کے برابر گولیاں بنالیں۔ورق نفرہ چڑھالیں۔ خوراك: أيك تا اكولى في وشام كمان 2 بعددود ه حساته كمان 2 بعد كلاتي -فوائد: عضلاتى غدى مقوى ياه كوليان بن - مرداندقوت خوب پيداكرتى ب جريان-

كاتيذ قانون مفرداعضاء 131 ضعف باد- نامردی وغيرہ علامات کے لئے بے حد مفيد ميں - اس کے علاوہ تمام اعصابی غدى اور اعصابى عضلاتى امراض وعلامات ك لئ ب حد مفيد ب- ب حد مقوى باه -01020 لاثانی چورن هوالشافي: نمك سانجر اتوله تمك ساه اتوله سفونف ۳ توله نمك لا بورى " توله رکچیل ۳ توله اجوائن ديسي اتوله مرچ سياه ٣ توله زيره فيد اتوله مت يوديدايك ماشه تركيب تيارى: تمام ادويات باريك بي ليس آخريس ست بوديد باريك بي كراچي طرح ملاليس بس تيار ب-خوراک: ایک ماشددن میں تین بارکھانے کے بعد کھلا تیں-فوائد: غدى اعصابي چورن ب-معده اورانتزيون - تمام عضلاتى اعصابى اورعضلاتى غدى امراض كے لئے بہت مفيد ہے۔ پيد درد بھوك كى كى - بد مضى - رياح كى زيادتى -دائى قبض _ تيز ابيت معده وغيره ك لت بحد مفيد ب-حب خاص شنگر فی هوالشافي: فتكرف ايك توله كيله يدبرايك توله مغزبادام فتوله زعفران ايك تؤله منقىٰ ۵ توله

توکیب تیاری: تمام ادویات کوعلیحدہ علیحدہ باریک پیں لیں اور یکجان کرکے چنے برابر گولیاں بنالیس۔ خوداک اتا اگولی ضبح دشام دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد کھلا کیں۔ فوائد: عضلاتی غدی مقوی یاہ گولیاں ہیں۔

ضعف باہ۔ نامردی۔ جریان منی۔ اور عام جسمانی کمزوریوں کے لئے بے حد مفید گولیاں ہیں تمام اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی مردانہ امراض وعلامات کے لئے مفید ترین دواہے۔

جگری

هوالشافی: زنجیل مه توله نوشادردیسی متوله مخم کاسی متوله برگ سنا کلی مصف متوله می ماسی می توله فلفل سیاه متوله می توله سفوف ملیضی متوله

توکیب تیاری: تمام ادویات کوباریک پی لیں۔ خوراک: ۲تا ۳ماشددن میں تین بارکھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ فواند: غدی اعصابی افعال واثر ات کا حال نسخہ ہے۔ تمام عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے کامیاب دواہے کم کی بھوک۔ دیا جہ برہضمی ۔ در دجگر دائی قبض۔ ضعف معدہ کمزوری جسم ۔ کام کرنے کودل نہ کر نا دغیرہ تمام کمزور یوں کودور کرتا ہے۔ دائی قبض کے لئے لاجواب ہے۔

syed imran sherazi

133

سفوف سور نجان هوالشافی:

رجيل ديوله سورنجال شيري ۵ توله اسكندنا كورى ٥ توله

ترکیب تیاری: تینوں ادویات کوبار یک پی لی بس تیار ہے۔ خوراک: ۱۲ - اماشة ۳ ماشدن میں دوتین بارکھانے کے بعد پانی کے ساتھ کلا کیں۔ فوالد: غدی اعصابی درد دور سفوف ہے ہر شم کی عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی دردوں کے لئے مجرب ہے۔ ہر شم کی دردوں کو بہت جلد دور کرتا ہے۔ ریا تی اور عضلاتی دردوں کے لئے تریاتی ہے۔ ترش وتیز ابیت کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض وعلامات کے لئے تریاتی ہے۔ ترش

لاثانی کف سیر پ

هوالشافي:

دصياختك اتوله

چيني ايك كلو يانى مكلو

توکیب تیادی: ملتحی کودرد ژاکرلیں اور سونف اور دختیا ملاکررات کو پانی میں بھگودیں مج اتنا جوش دیں کہ پانی نصف رہ جائے مل چھان کر پانی علیحدہ کرلیں اور اس نوشادر بار یک پی کر ملالیں اور چینی ڈال کر شربت بنالیں بس تیار ہے۔ خوداک : اتا اچچ دن میں تین بار کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھلا کیں۔ خوداک : اتا اچچ دن میں تین بار کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھلا کیں۔ فوالد : اعصابی غدی افعال واثر ات کا حامل نسخہ ہے عضلاتی غدی تحریک کی کھانی اور غدی مسلاتی تحریک کی دیتہ ہونے والی تمام چھ پچروں کی امراض وعلامات کے لئے بعد

كاتيذ قانون مفرداعضاء 134 مفید ب-دمد- ٹی بی- یرانی کھانی تھے کی خراش وغیرہ کے لئے بہترین ہے۔ ٹی ۔ بی کے مريض كودوسرى ادويات ك ساته ضروراستعال كروائي - ببت جلد شفاء بوتى بعضلاتى اورغدى تحريك كردمه ك لتح بھى بے حد مفيد ب چھوٹے بچوں کی پرانی کھانسی اور دمہ بھی اس کے استعال سے دور ہو جاتا ہے نہایت اعلیٰ کف سیرب ہے۔ سفوف گیس ٹربل هوالشافي: رتجيل هتوله يثحاسوذ اهتوله نوشادر شيكرى اتوله مرج سادا يك توله فكفل درازايك توله الا بحكى كلان أيك توله توكيب تيارى: تمام ادويات كوباريك بي ليس تيارلس -خوراك: ٢٢٣ ماشددن يس عن بار-فوائد: اعصابى غدى افعال دار ات كاحال نسخد بعضلاتى غدى اورغدى عضلاتى تحريك کی وجہ ہے ہونے والی کیس ٹریل کے لئے بے حد مفید ہے جن مریضوں کو حب کیس ٹریل ے آرام نہ آر ہا ہوان کوسفوف کیس ٹریل ضروراستعمال کروائیں۔ ترشی وتیز ابیت کے لئے بہت مفید ب- ٹی- لی کے مریضوں کو اگر بھوک ندگتی ہوتو ان کے لئے بے حد مفید ب حب فولادی لاثانی هوالشافي: يوست بليله ٥ توله ت بليله ٥ توله كيثير فاتوله يوست آمله ٥ توله براده فولا دهتوله كوزه مصرى واتوله erazi

كاتيذ قانون مفرداعضاء 135 دى ترش سكلو تدكيب تيادى: تمام ادويات كويس كراو بى كرابى يس ڈال كراكلودى ملاكركر ل کریں۔جب ختک ہوجائے تو ایک کلودی اور ڈال کر کھرل کر کے ختک کریں۔جب ختک ہوجائے تو پھرایک کلودہی اور ڈالیس اور کھرل کریں جب خشک ہوتو پھرتھوڑ اسا دہی ملاکر گولیاں جنگلی بیر کے برابر بنالیں۔ خوراک: ایک گولی مج نهارمنددی کی کی سے ساتھ کھلائیں۔ فوافد: عصلاتي اعصابي افعال واثرات كاحال نسخد بتمام غدى اعصابي اعصابي غدى ادراعصابی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید بے بالخصوص برقان ف صعف جگز مجس کی خون درم جگر عظم طحال وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔ مفوف تيز ابيت تور هوالشافي: غدى عضلاتي المسير ٢٠ توله غدى عضلاتي ملين ٢٠ توله مغز جمالكو شرا/ا_اتولد نمك خوردني ۲۰ توله تركيب تيارى: تمام ادويات كوطاكر خوب كمرل كري بس تيارب خوراك: ٢رتى تاايك ماشددن من يمن عن باريدغدى عصلاتى مركب بيتمام اعصابى غدى اعصابي عضلاتي عضلاتي اعصابي اور عضلاتي غدى امراض وعلامات سح لئ ب حد مفيداور كامياب دواب-اس کے استعال سے دائی قبض ۔ مللے پڑنا۔ خناز بر۔ رسولیاں چوڑے پھنیاں چرے کی چھائیاں بواسر خونی وبادی ۔ خارش ۔ دهدر چنبل _ فظلی جسم سے چھلے اتر نا وغيره تمام اعصابى اورعضلاتى علامات ختم موجاتى يس-اس دوا کے استعال سے پاخانہ با قاعدہ آنے لگتا ہے تمام بلغی اور سوداوی

رطوبات خارج ہو جاتی ہیں اس دوا کے استعال کے دوران یہ خیال رکھنا چاہیے۔ کہ مریض کوایک دو پاخانے روزانہ آتے رہیں۔ اگر پاخانہ نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دیں اور اگر پاخانے زیادہ آئیں تو دوا کی مقدار کم کردیں یہ دوا ہیرونی طور پر بھی تیل میں ملا کر استعال کی جاسکتی ہے۔

136

سفوف شاهى لاثانى

هوالشافى:

غدى اعصاني تلين واتوله غدى اعصابي باضم واتوله اعصابي غدى ترياق اتوله سغوف مفرح واتوله توكيب تيارى: تمام ادويات كوملالي ب تيارب خوراک: ۱۰۲-۱ماشة ۳۲ماشدن ميں تين بار كھانے كے بعديانى كے ساتھ كھلائيں-فواللہ: بیر مرکب تمام عضلاتی غدی نفدی عضلاتی امراض وعلامات کے لئے بے حد كامياب دواج-سفوف تبخير 💫 هوالشافي: ربجيل ٥ توله ريوندخطائي هتوله اجوائن ديمي ٥ توله نوشادر تضيكرى اژهائي توله فكفل سيادا ثرهائي توله قركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي لين - تيار ب-خوراك اتاماشدون من عن بار-فوالد: غدى اعصابي نسخد ب عضلاتي اعصابي اور عضلاتي غدى - تبخير معده رياح معده - بد ہضمی بواسیر۔دائی قبض وغیرہ کے لئے کامیاب دواہے اس کے علاوہ تمام عضلاتی غدی اور

syed imran sherazi

كاتيذ قانون مفرداعضاء 137 عضلاتي اعصابي امراض وعلامات کے لئے مفید ہے حب مقوی جگر هوالشافي: نوشادر شيكري متوله رتجيل واتوله ہراکسیس سے تیارشدہ اتولہ۔ كشةفولاد ترکیب تیاری: تمام ادویات کونہایت بار یک پی لیں اور گولیاں بقدر کابلی بنے کے بناليس-خوراك: اتا الولى دن من تمن بار كمان كربعد يانى كرساته كالأس-فوالد: غدى عضلاتى مقوى جكرنسخد ب منعف جكر كمي خون - كمرورى بدن خرابى مضم -بھوک کی کمی دائمی قبض وغیرہ امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے اعصابی غدی اور اعصالی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریک کی تمام علامات کے لئے مفید ہے۔ Stan 18to ترياق نزله هوالشافي: بهفكوى بريان " توله تجم دهتوره ايك توله تركيب تيارى: تيون ادويات كوباريك يس ليس تيار --خوراک سرتی تاایک ماشددن میں دونتین بارکھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلائیں۔ فوائد: عصلاتي اعصابي ترياق نزله بتمام أعصابي غدى ادراعصابي عصلاتي امراض وعلامات نزلد _ زكام _ كثرت بلغم _ ابتدائى خراش داركمانى كان بهنا _ زخول _ رطوبات كاكثرت ببنا وغيره جمله رطوبتى امراض وعلامات ك ليحترياق بزلد وغيره تواس ک پہلی دوسری خوراک ہے تھیک ہوجاتا ہے۔ دوا کھاتے ہی خطکی محسوس ہونا شروع ہوجاتی

التذ قالون مغرداعضام 138 باگراس دوا کے استعال سے خطکی زیادہ محسوں کریں کو مقدار خوراک کم کردیں اور دودھ زياده يكى-جريان توڑ هوالشافى: تالمكحانده توله شريده توله توكيب قيادى: تالمكحاندكوباريك بي ليس اورشير بركد ملاكر خوب كوليل اوركوليان كابلى یے برابر بنالیں۔ خوداک: ٢ گولى منح وشام نهارمند - دود ه ي ساتھ كھلائيں -فوائد: عصلاتي اعصابي افعال واثرات كاحال نسخد ب-منى كوب حد كارها كرتاب-منى كوكا زهاكر يحجريان احتلام سرعت انزال كاخاتمه كرديتا ب-منى كوكثرت كساته ييدا بحى كرتاب مفوف تهنتك هوالشافي: كشيزا ا_ لوله الا يحى خورد ٢٠١١ توله چینی • اتولہ تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك بي لي منذك تاريد خوراك ساشتا ٥ باشددن من تين بار مراه شربت صندل-فوائد: اعصابي غدى افعال واثرات اورغدى اعصابي اثرات كاحال نسخد بتمام عضلاتي غدى اورغدى عضلاتى اورغدى اعصابى امراض وعلامات كے لئے مفيدترين ب-ريتان-بالى يلد پريشر- باتھ يادُن كى جلن- دل كى تجمراب بينى-خونى بواسير بيشاب كى جلن -خونی پیشاب اورگری کی وجہ ہونے والے تمام امراض وعلامات کے لئے بے حد nran sheraz

كانتذ قانون مفرداعضاء مفدي غدى اعصابى ترياق معده هوالشافي: نوشادره توله فكفل دراز فاتوله نمك ساه ۵ توله الايجى خوردە تولە تركيب تيارى: تمام ادويات كوعلى على ويلي رمالي ... خوراك: ايك ماشدون من تين باركمان كربعديانى كرساته كلائي -فوائد: غدى اعصابي باضم بتمام عضلاتي غدى معده كامراض وعلامات ك لخ ترياق ب-بديم بيترابيت معده رياح كى كثرت دائى قبض بجوك بدلكنا وغيره علامات کے لئے بے حدمفید ہے۔ سفوف احتلام هوالشافي: كجل كلاب يعنىكل كلاب ايك توله بلدى وماشه يوثاشيم بروماتيذ سماشه توكيب تيارى: تينون ادويات كوباريك بي ليس اور ملاليس بس تيارب خوراك: ايك ماشي وشام بعدازغذا، يانى يادود ه ي ساته كلا يس-فوائد: اعصابی غدی نسخد ب_احتلام ذكاوت حس - سرعت انزال وغيره كے لئے ب حد مفید ب_ نوجوانوں کے لئے بے صد مفید ب_ اگر نوجوانوں کو معمولی تکلیف ہوتو صرف رات كوسوت وقت ايك خوراك دينا كانى موتاب-غدی اعصابی چورن هوالشافي: نوشادر اتوله مرج ساد اتوله

139

كاتيذ قانون مغرداعضاء 140 نمك ساه ۳ توله ست يودينه اماشه ست اجوائن ۳ ماشه توکیب تیارى: تمام ادويات كوعلى على دوباريك پي ليس_ خوراک سرتی تاایک ماشددن میں تین بار۔ کھانے کے بعدیانی کے ساتھ کھلائیں۔ فوالد: غدى اعصابي چورن ب- بد يضمى - بعوك كى كى - كيس - تيز ابيت پيد دردوغيره کے لئے بےحدمفید ہے۔ سفوف تبخير معده هوالشافي: سونف ۵ توله كشيز ختك ٥ توله الا پچی خورده ټوله مفرى ديتوله توکیب تیاری: تمام ادویات کوعلیجد ہ علیجد ہ باریک پی لیں بس تیار ہے۔ خوراك: ٢ تا٣ ماشددن من تين بار- كمان ك بعد كلائي-فوائد: اعصابی غدی تحد بعضلاتی غدی تحریک کی وجد ، مون دالی بخیر معده کے لئے بے صد مفید باس کے علاوہ تمام غدی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے مفدر The when to حب مقوی شیر برگد والی هوالشافي: ملاجت اتول كيله مديرا يك توله شر برگد اتوله تركيب تيارى: بيلى دونون ادويات كونهايت باريك بي ليس-اورملاكركوليان بقدردانه موتک بنالیں۔ Imrai

كائتذ قانون مفرداعضاء خوراك: اتا الولى منح وشام مراه دوده-كمان 2 بعددي-141 **خواند**: عصلاتی غدی مقوی گولیاں ہیں۔ضعف باہ۔ نامردی۔ جریان پیشاب کی زیادتی۔ مثاند کی مزوری اور تمام اعصابی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے۔ سفوف جريان هوالشافى: ستجراحت فاتوله ستاور ۵ توله بھوچھلی ۵ تولہ كوندد هاك ار هائي توله كشتة فولا داژهائي توله بخيني ۲۰ توله توكيب تيارى: ترام ادويات كوباريك بي لي بس تارب-خوراك: ٣ تا٢ ماشم وشام- كمانى يمل دوده كساته كلائي-فوائد: عصلاتى اعصابى افعال واثرات كا حال نخد بجريان كے لئے مفيد بمنى كوكثرت بساته يداكر ككارها كرتاب جريان احتلام اورسرعت انزال كاخاتمه ------5 اکسیر جگر هوالشافي: م به فکردی ۲۰ توله قلمى شورە ٢٠ توليه ہیراکسیں ۲۰ تولہ توکیب تیادی: تینوں ادویات کوباریک پی کرباہم ملالیں اور کمی کوزہ میں ڈال کرگل حکت کرکے پانچ سیراد پلوں کی آگ ہیں۔ سنہری رنگ کا کشتہ تیارہوگا۔ اچھی طرح کھرل كركيس اور محفوظ كركيس-فوراك اماشدتهارمنددي كي يطى كاسته كلائي -

كانيذ قانون مغرداعصاء 142 فوافد: عضلاتي اعصابي افعال دار ات كا حامل نسخد ب- يحس برقان جكرى خرابي -جكرى جرابى كى وجد بوجن وغيره دوركرتا ب-جكرى اصلاح كرتا ب-چورن هاضم هوالشافي: نوشادر اتوله نونف اتوله مرج سادساتوله مكحال ايك توله فكمى شوره ايك توليه كندحك آملد مادايك توله تمك سياه ايك توله نمك سانجرا يك توله سوڈ ایائی کارب ایک تولہ ست يوديند الماشه ست اجوائن ۲ ماشہ توكيب تيارى: تمام ادويات كوباريك پي لي بس تاري-خوراک ایک ماشتا ۲ ماشددن میں تین بار۔ کھانے کے بعد یانی کے ساتھ کھلا کیں۔ فواللہ: غدی اعصابی چورن ہے نہایت خوش ذا نقہ ہے پیٹے درد۔ بدہضمی گیس ٹریل۔ بد بمضم - تیز ابیت معدہ وغیرہ امراض دعلامات کے لئے بےحدا کسیر ہے۔ جريان روك هوالشافي: كشة مرجان أيك توله كشةحدف ايك توله كشة فلعى ايك توله سلاجيت ايک توله توكيب تيارى: تمام ادور كوعليجد وعليجد وكحرل كرك ملاليس اورتمورى در كمرل كري-خوداک: ارتى تاسرتى دن من تين بار- كمانے سے يہلے دودھ كے ساتھ كلائيں-

فوالد: عصلاتي اعصابي مقوى نسخد ب-جريان-ليوريا- مثاندى كرى اور كمزورى-

كانتيذ قانون مفرداعضاء 143 کثرت پیشاب۔ ذیابطس۔ بستر پر پیشاب کر دینا۔ گردوں کی کمزوری وغیرہ امراض وعلامات کے لئے بےحد مفید ہے۔ حب مرواريدى هوالشافي: آمله ختك مقشرا ماشه مرداريد ناسفتدايك ماشه بيدمثك كاعزق حسب ضرورت تركيب تيارى: دونون ادويات كوعليجد وعليجد ويس كرعرق بيدمشك كي جمراه دويوم كمرل کر کے دانہ مونگ کے برابر گولیاں تیار کرلیں اور محفوظ کرلیں۔ خوراك ايك كولى دن من دوتين بار - يانى من كساكريك ويا دياكري -فوائد: عصلاتی اعصا ی نخد ب بول کے جملہ امراض کے لئے مفید ب دانت نظنے ک تمام تكالف كے لئے مفيد ب - بچوں كے سوكھاين كے لئے اور بچوں كے برے يا دستوں کے لئے بے حد مفید ہے۔ بچوں کو موٹا تازہ کرتا ہے۔ اعصابى غدى ترياق معده هوالشافي: داندالا يحىكلان مأتوله نوشادرد یی متوله تمك سياه اتولد مرج ساداتوله difference Brich جوكهاراتوله توكيب تيارى: تمام ادويات كوعلىده علىدد باريك بي كرداليس-خوراک: اماشددن میں تین بار کھانے کے بعد یانی کے ساتھ کھلا میں-فواند: اعصابی غدی تریاق معده نسخد ب تمام عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی معده ک امراض کے لئے مفید ہے۔ بالخصوص بھوک کی کی - بدیضمی عصلاتی تبخیر معدہ - دائی قبض -

كانيذ قانون مغرداعضاء 144 بندش پیشاب دغیرہ کے لئے بےحدمفید ہے۔ حب خاص شير برگدوالی هوالشافي: مغزقتم تمر ہندی ہاتولہ مو يرى ھتول رب برگد برگ ۵ توله كشتر سددها يتاتوله شر برگدهاتوله قرکیب تیاری: تمام ادویات کا سفوف مانند خمار بنالیس اور شیر برگدیس کھرل کر کے گولیاں چنے کابلی کے برابر بنالیں _ اوراو پرورق نفر ہ چڑ ھالیں _ تیار ہے۔ خوراك: اتا الولى صبح وشام جمراه دوده - كهان سي يمل دوده كساته كهلائي -فوائد: عضلاتي اعصابي افعال واثرات كى حامل الميرى كوليان يي -جريان احتلام سرعت انزال كالمكمل خاتمه كرديت مي منى كوب حد كار هاكرتى مي -رب برگ برگد بنانے کی ترکیب ایسے برگ برگد جو کہ درخت کے ساتھ ہی زرد ہو گئے ہوں حسب ضرورت لے کر کوٹ لیں اور کسی برتن میں ڈال کران پرا تنایانی ڈالیس کہ برگ ڈوب جا ئیں پھرآگ پر چڑھا کرا تناجوش دیں کہ پانی آ دھارہ جائے پھر کسی کپڑے وغیرہ سے پن چھان کریانی علیحدہ کرلیں اور پھوک پھینک دیں۔اب اس پانی کو کسی برتن میں ڈال کر آگ پرخشک کر لیں پانی ختک ہونے پر جوگاڑ ھاموادسانے کا یہی رب برگ برگد ہوگا۔ ای ترکیب سے بھوچھلی کابھی ژب تیار کرلیں۔ أعصابى غدى هاضم هوالشافي: نوشادر ستوله فكفل درازا كميتوله

كاتير تانون مفرداعضاء 145 نمك خوردني ايك توله جوكھاراايك تولہ قلمى شوره ايك توله *سها که بر*یاں ایک تولہ داندالا پچی خورد اتوله ست يوديند الماشه تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك بي ليس بس تياري-خوراك: ايك ماشدون مي تين بار كمان كر بعدياني كرماتهدي-فداند: اعصابی غدی باضم ہے۔ در دمعدہ۔ ایھارہ تیض بھوک کی کمی بدہشمی گیس ٹریل عضلاتى غدى هاضم هوالشافي: آمله متشر واتوله ساق دانه واتوله بليله زردغشر واتوله بهيش مقشر واتوله نوشادر شيرى • اتوله بليله سياه واتوله اجوائن دليي•اتوله نمك ساه واتوله ست ليمون ٥ توله فكفل ساه واتوله ست يوديندايك توله توكيب تيارى: تمام ادويات كوباريك بي لي بس تيار -خوراك: ٢ ماشة ٢٢ ماشدون من تين بار - كمان بعد يانى كساته كلائي -تفوائد: عصلاتی غدی باضم ب تمام اعصابی غدی اوراعصابی عضلاتی معده ے امراض وعلامات کے لئے بےحد مفید ہے۔ Section and the and the state of the state of the state of the Imran sherazi

كانيذ قانون مفرداعضاء

یادگار منجن(عضلاتی غدی)

هوالشافى:

پوست بادام سوخته اتوله بچکری بریان اتوله نیلا تحو تحابریان اتوله عقر قرحا اتوله کبابه خنده اتوله مازو اتوله ما کمین اتوله نوشا در اتوله تیل لونگ ایک توله تیل دارچینی ایک توله

146

نمك ساده حسب ذائقه

توكيب تيارى: تمام ادويات كونهايت باريك پي ليس اور محفوظ كرليس ياد كارنجن موتا ب-

فوائد: دانتوں کو صفائی کرنے کے لئے لاجواب ہے دانتوں کا ملتا۔ دانتوں سے خون آ نااور پائیور یا دغیرہ کے لئے بے حد مفید و مجرب دواہے۔

000

syed imran sherazi

syed imran sherazi

کشته کی تعریف

کشتہ فاری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں۔ مارا ہوایا قتل کیا ہوا۔لیکن طبی اصطلاح میں کشتہ سے بیہ مراد ہے کہ ایسی تمام دوائیں دھا تیں اور پھر وغیرہ جو کہ نہایت سخت ہوں ان کواتنا باریک کر لیٹا کہ وہ مانند غبار اور قابل استبعال ہو جائیں۔کشتہ کہلاتا

اس مقصد کے لئے مختلف دواؤں دھاتوں اور پھروں وغیرہ کو مختلف تر کیبوں سے کشتہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چند مشہور اور کثرت سے استعال ہونے والے کشتہ جات کی چند آسان می تراکیب ککھی جاتی ہیں تا کہ بوقت ضرورت کشتہ جات کو آسانی سے تیار کیا جا سکے۔

Million -

كشته فولاد

كشة جات مندرجه ذيل بي-

ہیراکسیں بز اتولہ توکیب تیادی: ہیراکسیں کوبار یک پی لیں اورکی لو ہے کی کڑا ہی میں دوکلو پانی ڈال کر اس میں ہیراکسیں حل کرلیں۔ جب ہیراکسیس حل ہوجائے تو سوڈابا یکارب ڈال دیں اور کی لکڑی دغیرہ سے اچھی طرح ہلا کیں۔ سوڈابا یکارب کے طلتے ہی فور آا یک جوش سائلول میں پیدا ہوگا۔ اور گیس پیدا ہو کر جھاگ کی صورت میں او پر آنا شروع ہوجائے گی اگر برتن


Scanned by CamScanner

بنونا ہوتو ممکن ہے تھا گ باہرلکل جائے تھوڑی دیر کے بعد تھا گ بنچ بیٹھ جائے گی جب تھا گ نیچ بیٹھ جائے تو پھر کی لکڑی وغیرہ سے اچھی طرح ہلا دیں اور تھوڑی دیر بعد گاڑھا سا مواد نیچ بیٹھ جائے گا۔اور پانی نظر کراو پر آجائے گا۔اب احقیاط سے پانی نکال دیں اور دوکلو پانی ڈال کر حسب سابق عمل کریں اسی طرح جب تیسری دفعہ پانی نظر جائے تو باہر نکال دیں تو جو گاڑھا سا مواد نیچ بیٹھا ہوا ہے کڑا ہی سمیت آگ پر کھیں اور کڑا ہی کے نیچ آگ جب بی مواد خشک ہو گا تو سرخ رنگ کے کشتہ فولا دیم تبدیل ہو چکا ہو گا بی کشتہ فولا د تیار ہے متواد خشک ہو گا تو سرخ رنگ کے کشتہ فولا دیم تبدیل ہو چکا ہو گا پیشاب کی زیادتی اعصابی مقوی کشتہ فولا د ہے کم کی خون بھی ۔ انیسیا۔ جریان ۔ لیکوریا۔ پیشاب کی زیادتی وغیرہ کے لئے بے مد مفید ہے۔

148

ن مل مرجان الولد لے كرت مرجان كوبار يك بي لي اور كى ملى كى بيا لے ميں ذال كراو پر ه تولد كمن ذال ديں اور او پر دومرا بيالد ركھ كر كل حكمت كر كے دى كلوا و بلوں كى ال حد ديں جب آگ بالكل شندى ہوجائے تو كوزوں ميں مرجان نكال لي كشة تيارہ وگا-بار يك بين كرشيشى ميں محفوظ كرليں۔ خوداك اتا ارتى ہمراہ كمن من خالى بين كلا كيں۔ خوداك اتا ارتى ہمراہ كمن من خالى بين كلا كيں۔ خوداك اتا ارتى ہمراہ كمن من خالى بين كلا كيں۔ خوداك دريا دريا اور بي تاب كى زيادتى كے لئے بيد مفيد ہے۔ كى كمزورى اور بي شاب كى زيادتى كے لئے بيد مفيد ہے۔ كى كمزورى اور بي شاب كى زيادتى كے لئے بيد مفيد ہے۔

عقیق عمد ۲۵ تولد لے کر برگ سرس ایک پاؤ کوکوٹ کر نغد ہ ینالیس اور ایک پیالہ میں آ دھانغد ہ بنچ بچھادیں اورا د پر عقیق علیجد ہ علیجد ہ دانہ کر کے رکھدیں اورا د پر باقی نغد ہ رکھ کر



محشته هر تال محنو دختی بر تال مؤدتی ۱۰ تولد کر چو فر محوف تر کرلیں اور شاہتر و کا پانی نکال کر کی مٹی کے کوزہ میں کوذتی کے تکڑ فروب جا کی بھر اس کوزہ پر دومرا کوزہ رکھ کر گل عمت کر کے دس کلواو پلوں کی آگ دیں شند اہونے پر کوزوں کو نکال کرنہایت قطفتہ کشتہ بڑتال گؤدتی نکال لیں اور بار یک پی لیں بس تیار ہے۔ خوراک ۲ تا ۳ رتی دن میں تین بارکھانے کے بعد پانی کے ساتھ کلا کیں۔ فواند: عضلاتی اعصابی افعال واثر ات کا حال ہے ملیر یا بخار جریان بلخی کھائی وغیرہ نہون : اگر شاہتر و کا پانی نہ طرق کنوار کندل کے لعاب میں بھی ای طرح کشتہ بتایا جا سکتا فود: اگر شاہتر و کا پانی نہ طرق کنوار کندل کے لعاب میں بھی ای طرح کشتہ بتایا جا سکتا

And a second of the second of

صدف حب ضرورت لے کراس کے چھوٹے چھوٹے طرح کرلیں اور کی می کے کوزے میں ڈال کر او پر کنوار گندل کا لعاب اس قدر ڈال دیں کہ صدف کے ظرے ڈوب جا میں۔ پھر او پر دوسرا پیالہ رکھ کر گل حکمت کر کے دس کلواو پلوں کی آگ دیں۔ آگ شنڈی ہونے پر پیالے نکال کر کشتہ صدف نکال لیں اور بار یک پیں لیں۔ بس تیار ب۔ خود اک اتا م رتی ہمراہ دود حکھانے سے پہلے کھلا کیں۔ کائیڈ تانون مغردامضاء فواند: عصلاتی اعصابی مقوی ہے۔جریان لیکوریا۔ کثرت پیشاب بلغی کھانی وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔ حشت م شنگ ف

شتگرف روی ایک تولدی ڈلی لیں اور لہن ایک پاؤ لے کراچھی طرح کوٹ لیں اور ایک مٹی کا پیالد لے کرآ دھا کوٹا ہوالہن پیا لے کے پنچ رکھ کر در میان میں شنگرف کی ڈلی رکھ کراو پر باقی لہن رکھ کر تھوڈ اسا دبادیں اور او پر دوسرا پیالد رکھ کر گل حکمت کر کے دس کلو او پلوں کی آگ دیں آگ شنڈی ہونے نکال لیں شنگرف کی ڈلی نکال کر کھرل کرلیں بس تیار ہے۔ تیار ہے۔ فوالد: عضلاتی غدی مقوی باہ ہے اعصابی تحریک کی وجہ سے ہونے والی نامری ستی اور جریان کے لئے بے حد مغید ہے۔

کشته کچله (کچله مدبر)

لوہ کی کڑاتی میں ایک کلو کے برابرریت ڈال کر آگ پر کمیں جب ریت گرم ہو جائے تو ۱۸۳ پاؤ کچلہ سالم ریت میں ڈال دیں اور کی لو ہے کی سلاح سے ہلاتے رہیں یعنی کچلے کو بھونیں ۔ تھوڑی دیر میں کچلہ گرم ہو کر پھول جائے۔ جب کچلہ کا رنگ سرخی مائل ہو جائے تو اتارلیں اور کچلہ گرم کی کوٹ لیں۔ اگر کوٹا نہ جائے تو تھوڑی دیر اور بھون لیں جتنابار یک کرنا چاہیں ہوجا تیں گا۔

کچلہ حسب ضرورت لے کر کی تو بے یا کڑانی میں گائے کا تھی ڈال کر گرم کریں اور اس میں کچلہ ڈال کر بریاں کریں۔ جب کچلے کا رنگ مرخی مائل ہوجائے تو اتار کر کچلہ کو گرم گرم کوٹ لیس بس تیار ہے۔

فوالد: عضلاتى غدى مقوى ب جس نتر من محى كجله مدير استعال كرنا مويجى استعال

كائيذ قانون مفرداعضاء ن ونوں تر کیبوں سے کچلہ مد برکرتے وقت میہ خیال رہے کہ کچلہ جل کر کوئلہ نہ ہوجائے۔ بلکہ صرف بھن کراس کارنگ سرخی مائل ہوجائے۔

كشته ابرك

ابرك سفيد ياساه حسب ضرورت لے كركونيس جتناباريك موسك باريك كرليس بھر اس ابرک کے وزن سے دوگنا میٹھا سوڈا لے کرکسی کوزہ میں پہلے میٹھا سوڈ ااد پر ابرک پھر بیٹھاسوڈااوراو پر ابرک تہہ در تہد ڈال کرگل حکمت کر کے بیں کلواد پلوں کی آگ دیں کشتہ ابرک تیارہوگااس کشتہ کودس کلویانی کڑاہی میں ڈال کراچھی طرح حل کردیں اور دو گھنٹہ کے لے ایک بی جگہ پر پڑار ہے دیں۔

جب پانی نظر جائے تو پانی او پر سے اتر دیں اور کشتہ کو آگ پر گرم کرلیں ۔ بس کشتہ ابرك تياري-خوراك: اتا ارتى جمراه دود هكمانے سے سلي كھلائيں-

فواند: عضلاتی اعصابی افعال دانژات رکھتا ہے۔ ملیر یا بخار پرانے بخار صفرادی بخاروں کے لئے بے حدمفید بلغ کوختم کرتا ہے۔

كشته قلع

قلعی ۲ تولہ لے کر کاغذ کی طرح بار یک پترے بنوالیں اوران کو ناخنوں کے برابر کاٹ لیس اور برگ بھتگ۲\اکلولے کران کوکوٹ کر برگ بھتگ کا تعذہ بنالیس اور مٹی کے بوے پیالوں میں برگ بھنگ کے نعذ ہے کی ایک تہہ بچھا دیں اور او پر قلعی کے تکڑے تھوڑ بے تھوڑ بے فاصلہ پر بچھا دیں۔ اس طرح تبہ در تبہ برگ بھنگ کا نعذ ہ اور قلعی کے فکڑے بچچادیں اور دوسرا پیالہ او پررکھ کرکل حکمت کر بے میں کلواد پلوں کی آگ دیں جب آم بالکل سردہوجائے تو کوز نے لکال کران میں سے کشتہ شدہ قلعی سے کلڑ ے چن لیں اور

دھو میں کدان کی اندرونی جھلی علیحدہ ہوجائے اس کے بعد ایک ہفتہ تک لیموں کے پانی میں بھگور تھیں اس کے بعددومٹی کے پیالوں میں بند کر کے گل حکمت کر کے پندرہ کلواو پلوں کی آگ دیں۔ اگر سفید کشتہ ہوجائے تو ٹھیک ورنہ عرق لیموں میں کھرل کر کے تکیہ بنا کر پندرہ کلواو پلوں کی آگ اورد بے دیں عمدہ کشتہ تیار ہوگا۔ خود اک : ۲ تاہم رتی ہمراہ کھن کا دود دھالی پیٹ کھلا کمیں۔ فوالد : عضلاتی اعصابی مقوی ہے۔ جریان لیکوریا۔ کثرت بول شوگر وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

كشته زهر مهره

حسب ضرورت زم مرم معده لے کراس کوعرق گلاب میں خوب کھرل کر لیں اور تکیہ بنا کردو پیالوں میں گل حکمت کر کے دس میر او پلوں کی آگ دیں۔ آگ کو تصند اہونے پرز ہر مہر ہ کشتہ شدہ نکال لیں اور کھرل کر بے محفوظ رکھیں۔ خود آل۔ ایک تا ۲ رقی خمیر ہ گاؤ زبان کے ساتھ یا کھن کے ساتھ خالی پیٹ کھلا کیں۔ فوا تد: اعصابی عضلاتی افعال واثر ات رکھتا ہے تمام غدی علامات کے لئے بے حد مفید ہے۔ بالخصوص میتان ۔ کچراہٹ۔ دل کا کچرا تا ہاتھ پاؤں کی جلن اور ہائی بلڈ پر یشر کے لئے بے حد مفید ہے۔

کشتہ بنانے کے لیے کل حکمت کرنے کاطریقہ

نبر(۱) چکنی می لیکراس میں پرانی روئی اور پرانی مونج کی رسیاں کتر کوملا میں اور تھوڑ اتھوڑ اپانی میں ڈال کرخوب کھو میں تا کہ لی ی بن جائے پھراے کوزوں پر برطرف لگا ویں یعنی اس کی تیار کی ہوئی مٹی کا لیپ کوزوں سے چاروں طرف کر دیں۔اور خشک کر کے او پلو کی آگ دیں۔

(٢) منى كا كاراسا يتاليس اور يراف كيروں كے ايس كلر ، جوك بيالوں ير ليٹے جا

syed imran sherazi

كائتيثه قانون مفرداعضاء

سکین لے کران کومٹی کے گارے میں لت پت کر کے دونوں پیالوں کے کناروں کو ملاکر پیالوں کے او پر لپیٹ دیں او پرمٹی کے گارے کا لیپ کر کے خشک کرلیں اور اپلوں کی آگ دے لیں۔

154

آيورويدك مجربات بمطابق قانون مفرداعضاء

آيورويدك طريقة علاج دنيا كاقد يم ترين طريقة علاج بجوكه بزارد سال ب بندوستان ميں رائح ب- بندوستان ميں اس طريقة علاج كوسركارى سطح پر مرير حاصل بآيورويدك كے مجربات جوكه بزاروں سالوں ب استعال ہوتے چلے آ رب يں نہايت ہى مفيداورز وراثر يوں ميں نے آيورويدك كے چيدہ چيدہ نہايت ہى مفيد بحربات كونظريد مفرد اعضاء كے تحت ترتيب ديكر اپنى كتاب چوٹى كے مجربات ميں شامل كيا ب يہاں پر چوٹى كے مجربات ميں سے چند مجربات قارئين كتاب بذاكے لئے بيش كے جاتے بيں تاكہ دہ بوقت ضرورت ان سے مستفيد ہو سے

چوٹی کے بحربات نامی کتاب ایوویدک طب یونانی طریقہ علاج کے ایے نادر بحربات پر مشتل ہے جو کہ نظر یہ مفرد اعضاء کے تحت تر تیب دیے ہوئے بی اس کتاب کو کلھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ شائفین قانون مفرد اعضاء ۔ ڈاکٹر زاور حکماء صاحبان جو کہ نظریہ مفرد اعضاء کے تحت علاج معالجہ کرتے بی وہ دوسرے مروجہ طریقہ ہائے علاج کے بحربات بھی قانون مفرد اعضاء کے تحت استعال کروا کر زیادہ سے زیادہ دکھی انسانوں کی خدمت کر کیس اس کے علاوہ ایسے ایسے حضرات جو کہ نظریہ مفرد اعضاء کو نہیں جانے وہ بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب لا ثانی بحربات کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ دسانجن قالی

هوالشافي: كندهك آمله سار الوله رسونت • اتول

كاتيذ كانون مفرداعضاء

كافورەتولە

آب مولى • اتوله تد حجب تیادى: گندهك آملد ساركوآب مولى كے ساتھ اس قدر كرل كري كدنى ي ین جائے پھراس میں کا فور ملا کر یکجان کردیں۔اس کے بعدرسونت کوکوٹ کر ملا دیں اور آب مولى سے كمرل كر كے تمام مركب كى كابلى چنے برابر كولياں بناليس اور سايد ميں خک کرلیں۔

خوراك: ايك تا الكولى منح وشام - كمان ح بعد يانى كرماته كلائي-فوائد: غدى اعصابي افعال دائرات كى كوليان بي -خونى بواسير بمكندر - تاسور پھوڑ ب بحنسال جلدى امراض اورجهم كركس بحى حص بخون آن كوبند كرتى بي تمام عضلاتى امراض کے لئے مفید ہے۔

یوشٹك چورن

موسلي سفيد اتوله

بمن رخ الوله

چینی می تولہ

هوالشافي:

كوندكت ااتول جعلكا سبغول اتوله موچى الوله ثعلب معرى اتوله ببمن سفيد الوله داندالا بحكى خورد اتوله دار بختى الوله كمريا يسى بوئى اتوله

توكيب تيادى: تمام ادويات كوباريك ين لي بي تار ---فوراك: ٢ ماشتاايك تولد مح وشام جراه دوده-خالى يد كلا تي-فوافد: احلام مرعت انزال كاخاتمه كرتاب منى كوب حدكا دما كرتاب اعضائ رئيسدكو طاقت ديتاب جم كوتوى اورتوانا يناتاب-

156 كائيذ قانون مفرداعضاء ياچن چورن هوالشافي: فلفل سياه واتوله نمك سياه واتوله نوشادرد يى اتوله قد عبد قيارى: تمام ادويات كوش ميده بي لي بس تيار --خوراك ٢ تا٣ ماشدون مين اياتين بار - كمان ح بعد يانى ك ساتح كملائي -فواقد: غدى اعصابى افعال واثرات كاحال چورن باور بهت زورائر باور باضم ب اکثر امراض معده ایجاره بدیضی _ درد شکم _ کمنی بجوک _ جی متلا نا وغیره کودور کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔ موصلی آدی چورن هوالشافي: موسلي سفيد واتوله برك بعنك واتوله کشته قلعی ۵ توله كشة مرجان داتوله بدارى كند باتوله مغزكوني ٢٠ توله اسكندنا كورى ٢٠ توله الا پچي خورد و اتوله ست بيروزه والوله كافورهتوله چینی سواکلو قوكيب قيارى: تمام ادويات كوعليجد وعليجد وباريك بي كرملاليس-

خوداک ۳ ماش وشام جمراه دوده محاف کایک محدثه بعد کطائیں۔ فوافد : اعصابی عضلاتی افعال دائرات کا حال نخد ب منی کو گاڑھا کرتا ہے عضو تناس کو مضبوط کرتا ہے۔احتلام -جریان -سرعت انزال کا خاتمہ کرتا ہے منی کواولا د پیدا کرنے کے

-414.45 يرميشه أنتك وثى هوالشافي: رب برگ برگد واتوله مغز مخم تم مندى و اتوله سنوف پیلی ببول خام اتوله کشته تلعی بختک دالا ایک توله كشة مرجان ا يك توله توكيب تعادى: تمام ادويات كوعليمده عليمده باريك بي كرايك روزتموز اساياني ملاكر كمرل كركر في برايركوليان بناليس-خوراك: ايك تا اكولى مح شام مراهدده حمات يها كلا أي-فوالد: معدلاتى امسابى افعال دائرات كى حال كوليان بي جريان كيليح لاتانى بي-كثرت احتلام اودر مت انزال كاخاتمه كر يطبى اساك بيداكرتى بي -كريورنسيه حوالشاني: كافراك الثر نوثناددا يكسآوله توكيب تعادى: دونوں كوني كركى ششى بى بحركرم مغبوط ڈات لكا كرد كيس-توکیب استعمال: بوت خرورت نوارک ایک چکی لے کرناک میں دکھ کر خوب زور يادركونيس-اس م يعكي مى آتى بي اور تاك مان مى الما ----فوائد غرى اعسالى افعال دائرات كاحال أوار ب-دد فتيقد -دددر فزلدد كام-ددد داڑھ۔ ورد کان۔ مرکی دفیرہ کے لئے بے مدمنید بے بوش مریش کے تاک می بحوتك دي بوش ش آجا يكاردود فتية اورم دو كالتولا جاب ب

sved imran sherazi

كائيد قانون مفرداعضاء

موترل چورن

هوالشافي:

قلمی شوره • اتوله بچنگری ۵ توله جو کھار ۵ توله

توکیب تیادی: تینوں ادویات کوٹ لیں اور کی مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر آگ پر رکھ کر پکا کیں۔ جب تمام مرکب پکل جائے تو ہانڈی کو نیچ اتار لیں اور شنڈا ہونے پر یہ مرکب کر ید کر نکال لیں اور بار یک پی کر محفوظ کر لیں۔ حوداک ستالا ماشہ تک دن میں دو تین بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ حوالہ اعصابی عضلاتی افعال واثر ات کا حال نیخہ ہے انتہائی پیشاب آور ہے۔ تنگی چیشاب۔ پیشاب کا درد اور جلن کے ساتھ آتا اور پیشاب کی بندش وغیرہ کا فوری طور پر خامتہ کرتا ہے۔ پھری گردہ دمثانہ کے لئے بھی مفید ہے۔

مدهر وريچك چورن

هوالشافى:

ملتصى كاسفوف ٥ توليه سونف كاسفوف اتوله برگ سناکی صغیٰ ۵ تولہ كندهك آمله بماره توله چینی ۱۵ تول

قوکیب تیادی: تمام ادویات کوعلیحدہ علیحدہ باریک پی کرطالیں۔خوراک ۳ ماشہ ۹۲ ماشہ تک رات کوسوتے وقت دودھ کے ساتھ۔ فوالد: اعصابی غدی ملین ہے بے ضرر قبض کشاسفوف ہے رات کو کھا کر سوجانے سے صح کھل کر پاخانہ آجاتا ہے۔ بواسیر میں قبض کے لئے اسے ضرور استعمال کریں۔احتلام کے مریضوں کو بھی قبض کے لئے استعمال کروا کمیں۔

كائيذ قانون مفرداعضاء

اکنی مکہ چورن

هوالشافي:

میندهانمک ۵ اتولہ زیرہ سفید بھنا ہوا ۱ اتولہ مونی محقولہ نمک میاہ ۵ تولہ مرج ساہ ۵ تولہ ست پودیند ۲ ۱ ۱ مار شہ مرج ساہ ۵ تولہ ست پودیند ۲ ۱ ۱ مار شہ تاری - مرج ساہ ۱ دویات کو علیحہ ہ علیحہ میں ایس اور ملا کر خوب رگڑیں ۔ بس تاری -تاری - تا ۲ مار شہدون میں تین بار۔ ڈکاری - تی متلا تا - انچارہ - بعوک نہ لگتا پیٹ درد - بد ہضی وغیرہ تمام شکایات کو رفع کرتا مؤداک کو انچی طرح ہضم کر کے بعوک بڑھا تا ہے ۔ کیس ٹریل کے لئے بہت مفید ہے۔

چندر کانتا گولیاں

هوالشافى:

اتا قیااصلی•اتولہ مغز تخم تمر ہندی•اتولہ اجوائن خراسانی ھاتولہ تالمکھانہ ھاتولہ کافورھاتولہ

مغزیخ کو کچ ۱۰ توله رب برگ برگده توله کشته سددهانتده توله

سلاجيت اصلى ١٥ توله

كشة فولا ده توله

محتم دھتورہ۲۱-اتولیہ۔ توکیب قیادی: تمام ادویات کوعلیحدہ علیحدہ باریک پیں لیں اور کمی کڑاہی میں ڈال کر تھوڑاتھوڑا پانی ڈال کرکھرل کرتے جا کمیں۔جب کولیاں بنانے کے قابل ہوجائے تو کا پلی

كانيذقانون مفرداعضاء 160 چے برابر گولیاں بنالیں۔ خوداك: ايك تا الكولى صبح شوام نهارمنه جمراه دود ه كلائي -فواند: عضلاتی اعضابی مقوی گولیاں ہیں۔جریان۔احتلام۔ذکاوت س کے دفعہ ر لئے بدگولیاں اسپر ہیں۔جورطوبت بے موقعہ خارج ہو کرنقصان پہنچاتی ہے اس کو بہنے ہے ردی ہیں۔ تناسلی اعضاء کی جھوٹی شہوت کوزائل کرتی ہیں۔ پانی کی طرح رقیق مادہ منوبہ کو دہی کی مانندگاڑھابنا کرقوت امسا کیہ کو بڑھاتی ہیں۔منی کی جملہ خرابیوں کو دورکرتی ہی۔ جنسى امراض سے پیدا ہونے والے تمام امراض وعلامات كاخاتمہ كرتى ہیں۔ شول هرن يوگ هوالشافي: 12 11 11 11 بينك تحى مي بحنى موئى ايك توله بوست بليله زردايك توله كيله د برايك توله مرج ساه ايک توله سونثها يك توله فلفل درازايك توله سيندهانمك اتوله گندهک آمله سارایک توله **توکیب تیادی**: تمام ادویات کوعلیحدہ علیحدہ پیں کرتھوڑ اسایاتی ملا کر کھرل کرکے چنے برابر گولیاں بنالیں۔

خوداک ایک تا اگولی دن میں تین بارکھانے کے بعد پانی کے ساتھ کطائیں۔ فواند : عضلاتی غدی افعال واثرات کا حال نسخہ ہے۔ پید درد کیلئے بے حد مفید ہے۔ پید درد کے لئے نیم گرم پانی کے ساتھ استعال کریں۔ تمام اعصابی علامات کے لئے ب حد مفید ہے اعصابی دردوں کے لئے بہترین دواہے۔ الکسنی تندیدی ویٹی هوالشاف

پاره معنی ایک توله گندهک آمله سارایک توله

		10 - 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 - 11 - 12 - 1
161		كاتبذ فانون مقرداعصاء
	اجمودايك توله	يثحار تيليه مدبراتوله
	منقى ايك توليه	آلمدايک تولہ
	بوست بليلدا يك توله	يوست بليله زردا توله
	جوكھارايکتولہ	لتجى كمعارا كيك توليه
	سيندهانمك أيك توله	پوست چترک اتولہ
•	سوفجل تمك ايك توله	زيره سياه أيك توله
	سمندرى نمك ايك تولد	ابابزتگ ایک تولہ
	مگھاں ایک تولہ	سونتھا یک تولیہ
	کچله مدبر۵اتوله	مرچ سادا يك توله
ت کوبار یک پی	ی کی جلی تیار کرلیں اور دوسری تمام ادویا	تدكيب تسارى: باره اوركندهك
کے پائی کے ساتھ	ی کوملا کرکسی کژاہی میں ڈال کر کیموں ۔	كرسفوف يتاليس كجرتمام ادوبات
کے برابر کولیاں	انے کے قابل بن جائے تو دانہ موتک	خوب کمرل کرلیں جب کولی ہز
	11.	يتاليس-
(نے سے بعد پانی کے ساتھ کھلا کیں۔ میں بیا نہ میں میں ا	خوراك: اتاس كولى صبح وشام كها.
معده اورا تتول کو	ال داتر ات کا حا ^{ل س} خہ ہے۔ یہ توکیا ^ن	فدائد: عصلاتی غدی مقوی افع
	رتی ہے بھوک بڑھائی ہے۔	طاقت دیتی ہے۔بدہضمی کودور

ran sherazi S. S. S. S. S.

Access

كاتيذ قالون مغرداعضاء

syed imran sheraz عرقیات بهطابق قانون مفرداعضاء

صدل سفيد ٢٠٠ كرام كل مرخ ٢٠٠ كرام

162

اعصابى عضلاتى عرق

هوالشافي:

گاوزبان ۲۰۰ گرام تحم کانی ۲۰۰ گرام اجوائن فراسانی ۲۰۰ گرام پانی ۵۱ کلو توکیب تیادی: تمام اددیکورات کو پانی میں بھگودیں میں ۱۰ کلو حرق کشید کرلیں۔ خود الک: ۵۰ گرام ۲۰۰ اگرام دن تین بار کھانے کے بعد پلائیں۔ فوالد: اعصابی عضلاتی افعال داثر ات کا حال ہے تمام غدی عضلاتی اور غدی اعصابی امراض دعلامات کے لئے بعد مفید ہے تحریک کے مطابق ددسری ادویات کے ساتھ ملاکر استعال کردانے سے بہت مفید شہر تکریک کے مطابق ددسری ادویات کے ساتھ ملاکر استعال کردانے سریت مفید شہر کا جات ہے مطابق ددسری ادویات کے ساتھ ملاکر استعال کردانے سریت مغید شہر میں جات ہے میں میں میں میں کشود تعضلاتی اعصابی عرق تو الشافی: منتی ۲۰۰ گرام بانی ۵۱ کلو منتی ۲۰۰ گرام بانی ۵۱ کلو

تركيب تيارى: تمام ادويات كورات كو پانى مى بعكودين اور مى واكلومرق كشيد كري-خوراك: ٥٠ تا١٠ اكرام دن مى تين باركھانے كر بعد پلا تين-فواند: عضلاتى اعصابى افعال واثرات ركھتا ب تمام غدى اعصابى اور اعصابى غدى

كاتيذ قانون مفرداعصاء

امراض وعلامات کے لئے بے حد مغید ہے تحریک کے مطابق دوسری ادوات کے سماتھ ملاکر استعال كردائيس-

خولنجان ۲۰۰ گرام

کاکر شکھی ۲۰۰ گرام

163

عضلاتى غدى عرق

دار چيني ۲۰۰ گرام

بسفائج ٢٠٠ كرام

هوالشافى:

کلونجی ۲۰۰ گرام پانی ۵۰ کلو توکیب تیادی: تمام ادویات رات کوپانی میں بعکودیں صبح دس کلو مرق کشید کریں۔ خود الک: ۵۰ تا ۱۰۰ اگرام دن میں تین بار کھانے کے بعد پلائیں۔ خود الک: عضلاتی غدی افعال دائر ات رکھتا ہے تمام اعصابی غدی ادر اعصابی عضلاتی ادر عضلاتی اعصابی امراض دعلامات کے لئے بے حد مفید ہے دوسری ادویات کے ساتھ طلاکر استعال کروائیں۔

غدى عضلاتى عرق

هوالشافي:

اجوائن دليي ۲۰۰ گرام تيزيات ٢٠٠ كرام بوع ۲۰۰۰ کرام بالجي ووجركرام يانىداكلو

ترکیب تیادی: تمام ادویات رات کو پانی میں بعکودیں اور من اکلوعرق کشید کرلیں۔ خوداک: ۵۰ تا۱۰۰ اگرام دن میں تین بار کھانے کے بعد پلا کیں۔ فوالد: غدی عضلاتی افعال دائرات رکھتا ہے اور عضلاتی غدی امراض دعلامات اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی امراض دعلامات کے لئے بے حد مفید ہے تحریک کے مطابق

كاتيذ قانون مغرداعضاء

دوسرى ادويات كرساته طاكراستعال كروائي-

غدى اعصابي عرق

يانىداكلو

حوالشافي:

يودينه وماكرام سنده ۲۰۰ گرام زيه فيدم كرام انيسون ۲۰۰ گرام

164

توكيب تيارى: تمام ادويات كورات كويانى م بعكودي مج • اكلوعرق كشيد كري-خوراك • ٥ كرام ٢٠٠ كرام دن عن عن باركمان كر بعد بالكي-فوائد: غدى اعصابي افعال دائرات ركمتاب تمام عضلاتى اعصابي عضلاتى غدى ادرغدى عضلاتی امراض وعلامات کے لئے بے حد مفید ہے تریک کے مطابق دوسری ادویات کے ساته اكراستعال كردائين_

اعصابي غدي عرق

هوالشافي:

كرخ ومعارم سونف ۲۰۰ گرام مر چوکہ •• Y الالجى بزوم كرام بانىداكلو

قوعيب قدارى: تمام ادديات كورات كويانى م بعكود ي مح والكور ت كشيد كري. خوداك : ٥٠ كرام تا ١٠٠ كرام دن عن تين باركمات كر بعد بلائي-فوافد: اعصابي غدى افعال واثرات ركمتاب تمام معتلاتى غدى اورغدى معتلاتى مستلاتى اور غدی اعصابی امراض وعلامات کے لئے بے حد مغید ب تر یک کے مطابق دومری ادديات كرماته الكراستعال كردائم واجرت فاكده ووا

كاتيذ قانون مغرداعضاء

ابميت غذابمطابق قانون مفرداعضاء تمام مروجه طريقه باع علاج من فظريد مفرداعضاءا يكايساطريقه علاج جو کہ بے شارخو بوں کا حال بے نظر بد مفرد اعضاء ایک ایک کوئی ہے۔ جس پر تمام طریقہ بائ علاج ير كم جاسكة بي - نظريد مفرد اعضاء في تمام انساني جم كوتين حياتي مفرد اعصاء مل تقسيم كركان كي تحت تمام امراض وعلامات كوتقسيم كردياب فظريد مفرداعضاء بى ايك ايساطريقد علاق ب جس في افعال والا اعضاء في تحت تمام انساني جسم كي تقسيم كر کے انسانی جسم پر لاکو ہونے والے قانون کا قدرت کا سراغ لگایا ادران قوانین کے تحت ادور اوراغد بديش كيس فظريد مغرد اعضاء بى ايك ايساطريقه علاج بحس في يدابت کیا ہے کہ امراض میں غذا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے صرف متوازن غذا کھا کر بی انسان تذرست روسكما بصرف غذا تبديل كرك بى مريضو كاعلاج كياجا سكما بفطريد مفردا عضاءت كى يتحقق ب كدتمام امراض دعلامات مفرداعضاء كرافعال من كى بيش غزاؤں بى بدا بوتى جاورغذاؤں بى تحك بوتى ب-"نظريمفرداعضاء كرواتمام مروجطريقه بإعلاج غيراصولى إن" حقيقت بدب كفظريه مغرداعضاء كمعالجين كسواباتي تمام طريقه بإئ علان کے معالجین کو سے پیند تک جیس ہوتا کہ س مرض دعلامات کا کمی مفرد عضو کے ساتھ تعلق ب اوركون ى غذاكس مغرد منو ي فل كوكم ديش كر كتى --يادر مي خون صرف اور صرف غذاب بنآ ب اور تمام انساني جسم كى زندكى كا دار ومدارخون پر ہوتا ہے اگر خون کا دوران رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے خون اخلاط کا جموعه باخلاط غذاؤل بخ ين اور تحقف غذاؤل يختف اخلاط بخ ين-٢ انسانى جم عى اخلاط اكرتو اعتدال ك ساتحد وي تو ترتمام مفرد اعضاء ك افعال مجى احتدال پرر ج بي _اوراكراخلاط كى يشى بوجائدة مفرداعها و افعال ش

166

بھی کی بیشی ہوجاتی ہے جس سے مختلف قتم کے امراض دعلامات پیدا ہوجاتے ہیں جو کہ صرف ازصرف غذاكوتبديل كر الحنم ك جاسكة بي-قانون مفرداعضاء كي تحقيقات انسانى جم جارتم كمفرداعضاء ب لكر بناب- اعصاب - فددعضلات برا وكريال-ان من تين مفرداعضاء حياتى يافعلى بي اورايك مفردعضو بريال ساكن بي ان كاكام حياتي مفرداعضاء كے لئے رہائش فراہم كرنا ہے۔ انسانى جم مي تين فتم يحياتي مفرداعضاء بي اعصاب_غدد عضلات انمى مفرداعضاء كى نسبت بانسانى جسم من تين بى بد نظام ين ا- اعصابي نظام-٢- غدى نظام-٣- عضلاتي نظام- باتي تمام نظام مثلاً نظام انهظام - نظام تفس اورنظام تناسل وغيره ان تتنول نظامول كالحجت بم كام كرت بي-یعنی باقی تمام نظاموں میں سیتینوں نظام حصہ لیتے ہیں اوران کے بغیر کوئی بھی نظام کا منہیں كرسكتا- كيونكدانسانى جسم من حياتى مفرداعصاء بى صرف تين بي-چونکہ کی بھی جاندار کی نشو دنما ادر بد صورتری کے لئے غذا کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ کیونکہ غذا کے بغیر جانداروں کی نشو دنما اور بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ جوغذا جاندار کھاتے یں۔وہ غذاجانداروں کے جسم میں جا کرنظام انہظام کے ذریعے ہم ہو کراور مختلف مراحل طے کر کے جزوبدن بن کر جاندار کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ تمام غذا تیں چونکہ ایک بی فتم كانيس موتس - بلكه مخلف فتم كى موتى بي - اى طرح جانداروں كاجسم بھى ايك بى فتم كا تبين موتا بلك يخلف فتم اعمرداعضاء كاجزويدن بنى بي-ید بھی بیس ہوسکتا کہ تمام غذائی جم میں جا کر بعثم ہو کر صرف ایک بی قتم سے مفرد عضوى فشوتماكر اوردومر مفرداعضا ووجعود داس لتحجس طرح انسانى جم م

كاتيذ قانون مغرداعضاء تین مسم کے حیاتی مفرد اعضاء اعصاب غدد عضلات ہیں۔ بالکل ای طرح تمام غذائیں بھی مرف تين جم كي بي -اعصالی غذائس-غدی غذا کیں۔ عضلاتي غذائين اعصابي غذائين اعصابی غذائیں جب انسانی جسم میں نظام انہضام سے گذرنے کے بعد جزوبدن بن كرصرف ازصرف انساني جسم ك اعصاب كاحصه بني كيس ادرده اعصاب كي نشود نما ادر بدمورى كے ليے كام كريں كى۔ غدى غذائي غدی غذائی جب انسانی جسم میں نظام انہمام ، گذرنے کے بعد جزوبدن بن كرمرف ازمرف انسانى جسم كے غددكا حصه بني كيس اوروہ غددكى نشود نما ادر بد حورترى كے 505052 عضلاتي غذائين عصلاتى غذائي جب انسانى جسم من نظام انهضام ب كذرف ك بعدجز وبدن بن كرصرف ازصرف انسانى جسم ت عضلات كاحصه بني كيس اورده عضلات كى نشود نما اور - EUSAK2 EUSAX نظريد مفرداعضاء كالتحقيق بدب كرجوغذا بم كمات ين اس اخلاط يلم مفرا اور سودا بنتے ہیں۔ اخلاط کے ملتے بون بنا بادر تمام مفرد اعضاء کی نشود نما ادر يدمور ى خون ب موتى ب اورخون صرف از صرف غذا ب بنا ب يونك خون اخلاط كا

مركب جادراخلاط غذا بي بين جب غذاي كى بيشى موتى جدولا زى طور پراخلاط يس بحى كى بيشى موتى جرس كا اثر خون پر بحى پر تا ج جب خون يس كى بيشى يا كو كى نقص واقع موكار تو مفر داعضاء كو بحى صحيح غذا نيس ملى كا داران كا فعال يس بحى خرابى واقع مو جائر كى اور مفر داعضاء كے افعال كى خرابى كا نام ہى مرض ج - اب اس صورت ميں اگر غذا كے متعلق صحيح اور كل علم مواور غذا صحيح استعال كر وادى جائز قو مرض ختم موجائر كا يون غذا كے متعلق صحيح اور كل علم مواور غذا صحيح استعال كر وادى جائز قو مرض ختم موجائر كا يون متاثر ه مفر داعضاء كى افعال كى خرابى كا نام ہى مرض ج - اب اس صورت ميں اگر متاثر ه مفر دعضاء كى افعال كى خرابى كا نام بى مرض ج - اب اس صورت ميں اگر متاثر ه مفر دعضاء كى افعال كى خرابى كا نام بى مرض ج - اب اس صورت ميں اگر متاثر ه مفر داعضاء كى افعال كى خرابى كا نام بى مرض ج - واب ال مورت و تي الائى متاثر ه مفر داعضاء كى نشو و نما اور غذا صحيح استعال كر وادى جائز قو مرض ختم موجائے گا يون متاثر ه مفر داعضاء كى نشو و نما اور يو موتر كى موتى ج - خون چونك قد تمام اخلاط كا مركب ب اس لي حياتى مفر داعضاء خون سابى اين غذا جذب كرتے بيں اور اس غذا كے جزو بدن بينے بى مفر داعضاء ميں قوت اور يو موتر كى پيدا ہوتى جاور حياتى مفر داعضاء اين افعل مرابعام دينے كے قابل ہوتے ہيں - دوس كے لفظوں ميں اخلاط كر محسم مونے سے ہى مغر داعضاء بنے ہيں -

قانون مفرداعضاءاورارواح

قانون مفرد اعضاء کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں تین قسم کے حیاتی مفرد اعضاء ہیں۔ای طرح انسانی جسم میں ان تین حیاتی مفرد اعضاء کوزندہ رکھنے کے لئے تین بی قسم کی ارواح پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

ارداح کی پیدائش

اردار کی پیدائش کے سلسلہ میں نظرید مفر داعضاء کی تحقیق سے کہ جوغذا ہم کھاتے بیں اس سے اخلاط بنتے ہیں۔ تمام غذا نیس تین قتم کی ہوتی ہیں۔

اعصابی غذائیں۔غدری غذائیں۔عصلاتی غذائیں۔ان مینوں قسم کی غذاؤں ۔ تین قسم کے اخلاط بنتے ہیں۔ بلغم مفراء موداجب بیداخلاط مجسم ہوتی ہیں تو تین قسم کے مفرداعضاء بنتے ہیں یہاں بیہ بات یادر کھیں کہ جب اخلاط کا کثیف حصہ مجسم ہوتا ہے تو

168

كائيذ قانون مفرداعضاء مفرداعضاء بنتة بين اوراخلاط كطيف حص ارواح بنتى بين - چونكهاخلاط تين فتم ك ہوتے ہیں اور ان کے کثیف صفے سے تین قتم کے ہی مفرد اعضاء بنتے ہیں اس لئے اخلاط - الطيف حصد - تين قتم كى بى ارداح بنى إل-(١) خلط بلغ ككيف صح د ماغ داعماب بنة بي-خلط بغم کے لطیف حصے سے روح نفسانی پیدا ہوتی ہے۔ (٢) خلط صفرا کے کثیف حصے سے جگروغدد بنے بن -خلط صفرا کے لطیف صصے رو رو طبعی پیدا ہوتی ہے۔ (٣) خلط مودا کے کثیف صف تقلب وعضلات بنے إل-خلط سودا کے لطیف صفے سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ ارواح كحكام ارواح غير مادي ہوتی بان کا کوئی وجود نہيں ہوتا۔ ندان کو چھوا جا سکتا بے ندان کو پکڑا جاسکتا ہے ہرروح کا کام بیہ ہے کہ وہ جس مفرد عضو بے تعلق رکھنے والی خلط سے پیدا ہوتی ہے ای مفردعضو میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے مثلاً دماغ واعصاب کوکام كرنے بحقابل بنانے مح لتے روج نفسانى پيدا ہوتى رہتى ہے۔ ای طرح جگر دغددکوکام کرنے فکے قابل بنانے کے لئے روح طبعی پیدا ہوتی رہتی ای طرح قلب وعضلات کوکام کرنے کے قابل بنانے کے لئے روح حوافی پیدا אפיט נייט -ارواح كام كي كرتى بي یادر کمیں رومیں بذات خود کا مہیں کرتیں بلکہ یہ تین رومیں تین قتم کی قوتوں میں تدل بوطاني ب-

170 (١)روح نفساني قوت نفساني مي تبديل موجاتي ب-(٢)روح طبعى _ توت طبعى مي تديل موجاتى --(٣)روح حيواني قوت حيواني مي تبديل موجاتي ب-يهال بيذ يقطد ذبن تشين كرليس كدكوني بهى مفرد عضواس وقت تك كوتي كام تبيس كري جب تك اس مي قوت ند مورقوت موكى تووه كام كريج كاس لئ بني اكراخلاط ك كثيف صے مفرداعضاء بنے ہیں تو اخلاط کے لطیف جصے سے ارداح پیدا ہوتی ہیں جوتو تیں پر ا كرتى بين اور پرتو تين مفرداعضا وكوكام كرنے كے قابل بناتى بين سيتمام چكرغذات شروع ہوتا باورمفرداعضاء کے کام کرنے رضم ہوتا ہے۔ مقرداعضاء (75) Lels یہ بات ذہن نظین کرلیں کہ انسانی جسم کے حیاتی مفرد اعضاء پر بھی انسانی زندگی کا دارومدار بحاور جوغذاتي بم كمات ين بينظام انهضام في ذريع معم موكرجز وبدن بن كرحياتي مفرداعطا ويستبديل موتى بين يعنى غذاؤل سي يحاتمام انساني جسم كى نشود نماادر يد مور ي موتى بادرانسانى جسم من توت پيدا موتى باكرانسان كوسلسل كى روزتك غذا استعال ندكروائي جائروانسان كى موت واقع موجاتى ب-مختلف غذاؤل سے بنی مفرد اعضاء کی نشو دنما ہوتی ہے اور مختلف غذاؤں کی کی بیش ے بن اخلاط میں کی بیشی ہو کرخون میں اخلاط کا تناسب بکڑتا ہے اور حیاتی مفرد اعضاء کے افعال مي خرابي پيدا موجاتى ب-حياتى مغرداعضاء كى خرابى كى صورت تحريك ا يحليل-- يمير. بجصل منحات میں تفصیل کے ساتھ مجما دی گئی میں چونکہ غذا سے اخلاط اخلاط ب

مفردا معنا وادراروار اوراروار ت قوتی اور قوتوں افعال پیدا ہوتے ہیں اس لئے اگر انسان متوازن غذا کی اس طرح استعال کرے کہ تمام اخلاط توازن کے ساتھ انسانی جم میں پیدا ہوتے رہیں تو انسان صحت مندر ہتا ہے اور انسانی جسم کے مفرد احصاء کے افعال احتدال پر رہے ہیں اور اگر انسان مخلف حسم کی غذا کی احتدال کے ساتھ استعال نہ کرے تو پھر اخلاط کی کی بیشی ہو کر مفرد احصاء کے افعال کی کی بیشی سے مخلف حسم کے امراض دعلامات پیدا ہوجاتے ہیں اس لئے اگر حوام دخاص کو غذا ڈی کے متعلق صحیح علم ہوا ور وہ جانے ہوں کہ کس غذا کا تعلق کس مفرد عضو کے ساتھ ہوا در کس فذا کو کھانے سے کس عضو کی نشو دندا اور بر حوتر کی ہوتی ہو اور اس لئے اگر حوام دخاص کو غذا ڈی کے متعلق صحیح علم ہوا ور دو جانے ہوں کہ کس غذا کا تعلق کس مفرد عضو کے ساتھ جہ اور کس فذا کو کھانے سے کس حضو کی نشو دندا اور بر حوتر کی ہوتی ہو اور اسے قوت حاصل ہوتی ہے اور دہ اس بات کو ید نظر رکھ کر غذا ڈن کا استعال کر یں تو معمولی سے معرولی مرض دعلا مات سے لر خطر تا ک

لیکن افسوس عام لوگ تور ہے ایک طرف بڑے بڑے بڑے حکماء ڈاکٹرز اور مرجن صاحبان کو بھی غذاؤں کے متعلق سی علم نہیں ہوتا۔ وہ صرف غذاؤں سے دنامن اور انر بی حاصل کرنے کے چکر میں رجح بیں۔ یہ یی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحبان پا سیم صاحبان کسی مریض کودوادیتے بیل تو ساتھ ہی غذا ایک بتادیتے ہیں جس سے مریض کی تعلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے مریض جب ڈاکٹرز صاحبان کے پاس آتا ہے اور تعلیف میں اضافہ کا بیل دیتے بیں اگر تو مریض کے مقدر میں شغا ہوتو وہ ٹھیک ہوجاتا ہے درند مریض کی دوا بدل دیتے بیں اگر تو مریض کے مقدر میں شغا ہوتو وہ ٹھیک ہوجاتا ہے درند مریض کی دوا مریض کوذر ماحبان کر بیا کے مان کا دوا مدل دیتے بیں اگر تو مریض کے مقدر میں شغا ہوتو وہ ٹھیک ہوجاتا ہے درند مریض کی اور مریض کوذر ماحبان کے زد دیک علاج محاجان موجاتا ہے دوران نظام اند کا مریض کوذر ماحبان کر دوا تیں ان کا خیال ہے ہوتا ہے کہ بیل کا دوران نظام اند جا مریض کوذر میں خان کر دوا تیں ان کا خیال ہے ہوتا ہے کہ بیل کا دوران نظام اند بیل م متاثر ہوتا ہے اور وہ سخت غذا کو برداشت دیں کر سکتا ہے ہوتا ہے دوران نظام اند بیل استعال کردائے ہیں یم م ف اور مرف العلمی اور غذاؤں کے متعلق مح علم کاند ہوتا ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ نظر یہ مغرد اصلاء کے سواتمام مردجہ طریقہ بائے علاج نے کی بھی غذایا دوا کو مفرد اصلاء کے تحت بیش ہی نیس کیا دہ اس جد یوتر ین تحقیق ے بالک ب خبر ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ کی تخص کوا کی لفظ پڑ حتاقیں آتا اور تام ہوتا ہے علم دیں۔ اس دجہ سے علم العلاج ہم بے شام غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جس سے ہزاروں قیمتی جاتم مارتے ہوجاتی ہیں اور کی کو خبر کی تیں ہوتی۔

172

نوث

کوکہ چارت تظریر مغرداصداء کے مطابق انسانی جم میں اظاط کو منظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے لیکن اس کے بادجود یہ چارث جدید سائن کے مطابق بھی انسانی جم کو ہفتہ می کھل حوازن غذا فراہم کرتا ہے اور جدید سائنس کی تحقیقات بھی یہ جی کہ اگر انسان کو کمل سوازن غذالمتی رب قودہ بیار یوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بیر چارث مرف تکدرست افراد کے لئے ہے۔ بیارافراد کوان کی تحریک کے مطابق غذا کم تجویز کریں۔

چارٹ اغذ یہ

مفتر صبح: کمير-چاول دوده- مشرد اند سك مغيرى-تازه دى كى منى كى-دوبى المجر- چىندر-فركوش كاكوشت - ملاد كميرا-كلرى-چاول-كدد-شام: دود هليمى - شلجر-چىندر-فركوش كاكوشت - كدد كاسالن-

مصلم: دوده بن - بم- چسدر- رون و مت- مدده . بعل: تربوز-تازه ناريل شکرفتدی کميرا- کيلا-

اتوار

صبع: انٹر فرائی۔ الجانٹرے۔ بینے چے۔ وال مویاں۔ بڑے پائے۔ دوبیتو: کوشت کیتر۔ مرغ قادی۔ پڑیا۔ اوجزی۔ وال چے۔ میاہ چے۔ کڑی۔ مشاع: پالک۔ آلو۔ مرسوں کا ساگ۔ تحک کیاب۔ شامی کیاب۔ چینگال۔ ٹمائر۔ بیاڈ۔ مرخ مربق کی چنتی۔ بھل: انگور لوکاٹ۔ میرخلک۔ جاپانی بچل۔ انجر۔ آ دوترش۔ آم۔ آلوچہ آلو تقادا۔

صبع: مربعا يرطوه كاير سويال دود حدال - كمريدا - قرنى - مغزمرى -حجب عد شخ جادل - كدودال - ماش - كالى تورى - مولى - بح سفيد شيتشيال - تجوف مرك باع-شدام: اردى - جادل - زيده كالى مرق - تحكوى - مولى - كايركا سال - لوزيس كا

سوموار

اچار۔ بعل: ناشیانی - کولڈن سیب - کرما - سردا - خربوزہ - محت - گنا - کیلا۔ مشکل صبح: مربہ آملہ ودی - آلو مجمو لے - لو بیا - ترش کی - کوشت بعین - کوشت کائے۔ مجملی - آلومز - کویمی - بینکن -جہتی -مشاح: آلومز - آلوکومی - دہی بیطے - اچارآم - سرسوں کا ساک بیا زلیسن - سرخ مربع ک چینی -چینی -پیل : جامن - فالسہ - ترش سیب - کنو - عظم ہ - آ ڈو - آلو چہ - ترش انار - موتک پیلی -

بدھ

صبع: حلوه بادام - بطخ کے انڈوں کا طوه - مربدادرک - حلوه سوجی - پرانھا - دلی تھی والا -دوپھو : تیتر - بیر کا کوشت - مرغابی - بطخ دلی کا کوشت - شینڈ ے کالی توری - دال موگل -موگر - -عشاج : کدد کوشت ڈال کر - دال کلتھی - بینے کا سالن - دودھ میں سالن ملاکر -پھل : پہیتہ - شہتوت -

> جمعرات صبع: کمیر-چاول دودھ۔ سرڈ۔ انڈے کی سفیدی۔تازہ دبنی کی میٹی لی۔ دوبی اشلیم۔ چھندر۔سلاد کمیرا۔کلڑی۔چاول خرکوش کا کوشت۔ ملسام: دودھ طبی مطلیم۔ چھندر خرکوش کا کوشت۔کددکا سالن۔ بھل: تربوزہ-تازہ ناریل مشکر قندی کمیرا۔کیلا۔

جمعة المبارك صبع: بينص انثر ب والي توس فروباني ختك - آم كامر به مجوري كما كرادير ب دوده یں شہد الکرمیں۔ دوبدو: بر الكوشت - ساك مرسول - تارام رام رفح ديل - يتر ادرتليركا كوشت -يوديند-مرخ مريح - بسن- بازى چنى-ب میسر مراج من - بیاری من -منساح: میتھی - باتھو کا ساک کوشت ڈال کر کیچی - آلوبالو - اچار سوہا بجند - بکر سے کا م م كرشت بعل: شهتوت _ آم شیری _ مجوری _خوبانی _ انگور - پینة _خربوزه مشحا _ مندرجه بالاجارث كے مطابق اس طرح بھی غذائي استعال كى جاسكتى بي غذاكي دن ہفتہ +اتواردالی غذا تیں۔ يغته اتوار+سومواردالى غذائيس-اتوار سوموار+ منكل والى غذائي -وموار منگل+بدھوالی غذائیں۔ E بده + جعرات دالى غذائي -جعرات + جعدوالى غذائي -جعه+ بفتدوالى غذائي-

175

syed imran sherazi

syed imran sherazi رہنمائےمطب

رموزعلاج

علاج کرتے وقت موم اور موی تبدیلیوں کو ضرور مدنظر رکھنا چاہے۔ مثلاً موم گرما یں اکثر لوگوں کی نیف غدی ہوتی ہے۔ گر جب ای موسم میں بارش وغیر ہ اور آسان پر بادل چھائے رج میں تو اعصابی علامات نزلۂ زکام چھیکوں کی کثرت اور ہیف وغیرہ کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ ایک عالت میں ہمیشہ عضلاتی اوویات استعال کرنی چاہئے ای میں کامیابی ہے۔ ایک عالت میں ہمیشہ عضلاتی اوویات استعال کرنی چاہئے ای میں علامات ملیں ۔ ای حالات میں علامات کوزیادہ اہمیت دینی چاہئے جس تح کیا کے مطابق علامات ملیں ۔ ای حالات میں علامات کر یں۔ اکثر لوگوں کو یو قال ہو جاتا ہے۔ یو قان غذی عضلاتی تح کی کا وجہ سے بی میں میں اکثر لوگوں کو ہی خدہ ہوجاتا ہے۔ جو کہ اعصابی عضلاتی تح کی کی وجہ ہوتا ہے۔ موہ کر ما یوقان کے بالکل برعکس ہے موسم گر ما میں ہیں ہو معادتی تح کی کی وجہ ہوتا ہے۔ موسم گر ما میں میں اکثر لوگوں کو ہیں ہوجاتا ہے۔ جو کہ اعصابی عضلاتی تح کی کی وجہ ہوتا ہے۔ موسم گر ما یوقان کے بالکل برعکس ہے موسم گر ما میں ہیں ہو خداتی وجہ ہوتا ہے۔ موتا ہے جو کہ مشدت ۔ نیچنے کے لیے خصند ۔ مشروبات اور غذا کیں وغیرہ و بکر ت استعال کر کی کی

☆.....☆

یم نے بے شارم یصوں کو آنکھیں بند کر کے غدی اعصابی ملین غدی اعصابی ملین غدی اعصابی ہاضم ادراعصابی غدی تریاق برابر دزن ملا کر استعال کر دایا جس مریض کو بھی یہ مرکب دیا گیا دہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے مریض جو کہ آدھی روٹی تک نہیں کھا سکتے تقصان کو میں

177 كائيذ قانون مغرداعضاء نے قرص باضم الکولی دن میں تین باراستعال کردائیں اور وہ آٹھ آٹھ روٹیاں کھانے لگے۔

عضلاتی تحریک کے جیتنے مریضوں کو بھی سفوف تیز اہیت تو ژاستعال کردایا گیا۔ دہ تذرست ہو گئے ۔ کٹی مریضوں کو صرف بیہ اکیلا مرکب ہی استعال کردایا ادر کئی مریضوں کو اس کے ساتھ غدی اعصابی اددیات ملا کر استعال کردا کمیں جلدی امراض میں سفوف تیز اہیت تو ژسرسوں کے تیل میں یا کھن میں ملا کر استعال کردانے سے بہت مفید ثابت ہوا۔

☆.....☆.....☆

دو دوسال کی دوالی پچال میرے پاس لائی گئیں جن کوسر میں دھدر کی طرح ک جلدی بیاری تقی کافی علاج کرانے پر بھی ختم نہ ہوئی تقی ان کوسفوف تیز ابیت تو ڈمکھن میں ملا کر مرہم سی بنا کر استعال کر دایا گیا۔ چندر دز کے مسلسل استعال کر دانے سے دونوں بچیاں تندرست ہوگئیں۔

تھوک اور بلغم کے ساتھ کھانسنے سے خون آنے کے لئے یا کسی زخم وغیرہ کی دجہ سے گلے سے خون آنے کے لئے میں نے ہمیشہ اعصابی غدی تریاق ایک تا ڈیڑھ ماشہ کی مقدار میں کئی مریضوں کو کھلایا صرف پہلی یا دوسری خوراک سے بھی خون آنابند ہو گیا۔

\$

☆.....☆.....☆

عضلاتی غدی تحریک کے بعض ایسے نوجوان بھی میرے پاس آئے جن کو مردانہ کمز دری تھی مگران کو جب اعصابی غدی مغلظ ادویات استعال کر دائیں تو پچھافا قد ہوا۔ مگر مریض مطمئن نہ ہوئے مگر جب اعصابی غدی ادویات کے ساتھ عضلاتی غدی تریاق تبخیر ملا کر استعال کر دایا تو مریض خوش ہو گئے۔

ناک۔ کان۔ لیکے وغیرہ کی اکثر علامات کے لئے مصفیٰ خاص کمپیول جے بھی استعال کروائے اے ہی آرام آگیا۔ ناک۔ کان۔ لیکے وغیرہ کی اکثر علامات عصلاتی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔اورغد کی ادویات مفیدر ہتی ہیں۔

178

☆.....☆.....☆

عضلاتی تحریک کے نوجوان مریضوں کو پہلے غدی اددیات استعال کروائی تئیں اور جب کافی افاقہ ہو گیا تو اعصابی اددیات استعال کروائی تئیں۔جس سے مریضوں کی کایا ہی پلٹ گئی۔

اعصابی عضلاتی علامات کے لئے عضلاتی غدی اور عضلاتی غدی علامات کے لئے اعصابی غدی اور غدی عضلاتی علامات کے لئے اعصابی عضلاتی ادویات ہمیشہ تریاق ثابت ہو کیں۔

☆.....☆

میرے پاس بواسیر کے جتنے بھی مریض آئے ان کوغدی اعصابی ادویات ہی ملاکر استعال کردائی گئیں ادردہ سب ٹھیک ہو گئے۔

☆.....☆.....☆

یس ہمیشہ بی مریضوں کوتر یک کے مطابق چندادویات ملا کراستعال کروا تا ہوں اور بہت جلد مریضوں کوافاقہ ہوجا تا ہے۔

☆.....☆.....☆

عضلاتی تحریک کے مریضوں کوغدی اعصابی ادویات بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ کسی بھی تحریک کے مطابق علاج کرتے وقت اعصابی عضلاتی ملین عضلاتی عصابی ملین مصلاتی غدی شدید - غدی عضلاتی ملین اور غدی اعصابی مسبل اور اعصابی مری تریاق استعال کریں تحریکوں کے مطابق ان ادویات سے علاج شروع کرتا چاہے۔

كاتيذقانون مفرداعضاء

180

کے لئے تین تین خوراکیں دے دیں۔ دوسرے دن جب وہ بچ میرے پار آئے تو میں حیران رہ گیا ان کے پھوڑے پھنسیاں دغیرہ خشک ہو گئے تھے میں نے ان کوایک روز کے لتے پھر کندن ہی دے دی۔

☆.....☆.....☆

جب بھی کسی مریض کوکسی بھی مرض وعلامت کے لئے کوئی ددا دی اورا ہے افاقہ ہو کیا۔اورمریض کوجلد سے جلد آرام پہچانے کے لئے اس دواسے تیز دوااستعال کر دائی گئی تو مرض پھراپنی اصلی حالت پر آگیا۔ بار بار کے تحربات سے بیسبق ملا کہ جس بھی دوا ہے مریض کوافاقہ ہوجائے اسے بدلنانہیں چاہتے بلکہ ای دواکوجاری رکھنا چاہتے۔اس دواکے سلسل استعال ہے مریض ٹھیک ہوجا تا ہے۔

☆......☆......☆

ایک بچہ جس کی عمرتقرین ۱۴٬۱۰ سال تھی اس کے والدین رات کو میرے پاس لے کر آئے۔ بچے نے بتایا کہ اسے سریں دردہور ہاتھا۔ اس نے کریانے کی دکان سے سر دردکی کوئی گولی لے کر کھائی صبح کولی کھائی اور دو پہر کو پیشاب کی بجائے خون آنے لگا۔ بچے کے والدنے بیچے کا پیشاب دکھایا جو کہ خون تھا۔ بچے کے والدین بہت گھبرائے ہوئے تھے میں نے بیچے کی نبض دیکھی جو کہ شد ید عصلاتی غدی تھی۔ میں نے بیچ کے والد کو کہا کہ کی دکان ے ایک یاد گاج کا مربد لے کرآ و بچ کا والد ایک یاد گاج کا مربد لے کرآ یا۔ میں نے یج کوایک یاؤ گاجر کا مربد کھلا دیا اور معمولی می دوا بیچ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لئے دے دی اور کہا کہ گھرچا کرنچے کودود ھ شنڈا کر کے چینی ملا کریلا نا اور ضبح مجھے پھر بچہ دکھانا۔ صبح بچہاور بیج کے والدین آئے وہ بہت خوش تھے کہنے لگے کہ بچہ رات کو گھر جا کر سو گیا۔ صبح جب اس فے اٹھ کر پیٹاب کیا توبالکل ٹھیک تھا۔ یہ میرے انو کھے تجربات میں ہے ایک تجريدتها _ ايك لادارث سامريض عمرتقريباً من سال كقريب مير سي ما يار وه چندقدم نہیں چل سکتا تھا۔ اس کو چکر آتے تھے اور سانس چڑھ جاتا تھا۔ چہرے کا رنگ زرد ہو گیا

كانتذقانون مغرداعضاء

تھا۔ میں نے اسے چند کولیاں حب فولا دیلا ثانی کی دے دیں اور کہا کہ روزاندا یک کولی صبح نہار منہ دہی کی لی کے ساتھ کھالیا کرنا۔ چند روز بعد وہ دوبارہ آیا تو بہت خوش تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھااور مجھے دعا نمیں دے رہاتھا۔

☆.....☆

میر ایک ہومیو پیتھی کے استاد جناب ڈاکٹر محدر شید بٹ صاحب جو کہ مولا ناظفر علی خاں ہومیو پیتھک کالج وزیر آباد میں میٹر یا میڈ لیکا کے پروفیسر تصاور آج کل راہوالی چھاؤنی میں کلینک کررہے ہیں ان کو ایک دفعہ سانپ نے ڈس لیا۔ سانپ نے ان کے پاؤں پرڈ ساتھا۔ ان کا پاؤں خراب ہو گیا۔ وزیر آباد ہپتال کے سرجن ے رابطہ کیا تو سرجن صاحب نے اپریشن کر کے تمام متاثرہ جلد کوشت وغیرہ علیحدہ کر دیا ان کے پاؤں کے او پر کی طرف تقریباتمام جلد شخط تک اتاردی گئی۔

پاؤں ہڑیوں کا پنجر سانظر آنے لگا۔ان کو بہت مبتلی ادویات استعمال کروائی جارتی تحسی مگرز خم تحکی نہیں ہور ہاتھا۔ سرجن صاحب نے کہا کہ کم از کم چھ ماہ میں ڈاکٹر صاحب کا زخم تحکیک ہوگا۔اگر آپ چا ج ہیں کہ جلد اخر تحکیک ہوجائے تو ایک آپریشن اور کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے جسم کے کسی حصے سے جلد اخار کر آپریشن کے ذریعے پاؤں پر لگا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اپریشن سے تحجرائے ہوئے تتے او پرے دوسرے ہی آپریشن کا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اپریشن سے تحجرائے ہوئے تتے او پرے دوسرے ہی آپریشن کا میں ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اپریشن سے تحجرائے ہوئے تتے او پرے دوسرے ہی آپریشن کا میں ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اپریشن سے تحجرائے ہوئے تتے او پرے دوسرے ہی آپریشن کا میں ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اپریشن سے تحجرائے ہوئے تتے او پرے دوسرے ہی آپریشن کا میں مرف آپ کو تین پٹیاں کر تا ہوں اور تین دن کے پائ پہنچا تو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں صرف آپ کو تین پٹیاں کر تا ہوں اور تین دن کے لئے تی کھانے کی دواد یتا موں۔ اگر تین دن میں زخم ۱۰ فیصد تحکیک ہو گیا تو میں علاج کروں گا۔ ور نہ آپ سرچن صاحب سے مشورہ کر لیجنے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تحکیک ہو۔ کے لئے دے دیئے اور کیپ ولوں کے ساتھ دود دھ پینے کا کہا۔ دوسرے روز میں جب دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پٹی کرنے کے لئے گیا اور پٹی کھول کر دیکھی تو میں جیران رہ گیا۔ صرف ایک پٹی ہے ہی زخم ۱۰ فیصد سے زیادہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے گھر والے بے حد خوش ہوئے۔ میں نے انہی دو دواؤں سے ڈاکٹر صاحب کا علاج کیا اور صرف دو ہفتے میں ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہوکراپنے کلینک پر پنچ گئے۔ تریاق نزلہ کانسخہ پچھلے صفحات میں دے دیا گیا ہے۔ مرہم جا دد کانسخہ مندر دجہ ذیل ہے۔

مرجم جادو

هوالشافى:

كميلدا يك تولد		كتحدا يك توله
مرده سنك اتوله	82	سندهورايك توله
موم اتوله		رال ايک توله
		Dury REd.

توکیب تیادی: پہلی پانچوں ادویات کونہایت باریک پی لیں اور پر تھی کو کی سلور کے برتن میں ڈال کر آگ پر دکھ کر پکھلا کیں۔ جب تھی خوب پکھل جائے تو تھی میں موم ڈال دیں۔ جب موم خوب تھی میں حل ہوجائے تو تمام یہی ہوئی ادویات طاکر بلکی بلکی آگ پر ایکا کیں اور کی لکڑی وغیرہ ہے مرہم کو ہلاتے رہیں۔ جب مرہم کا رتگ ساہی مائل ہوجائے تو برتن پنچ اتارلیں اور مرہم کو لکڑی وغیرہ سے ہلاتے رہیں۔ جب مرہم کا دتگ ساہی مائل ہوجائے تو تیارہے۔ بیر مرہم ہر قسم کے پرانے سے پرانے زخموں پھوڑ دن اور پھنسیوں وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے۔ میں اکثر بخار میں مریضوں کو دوسری ادویات کے ساتھ غدی اعصابی ہاضم ضرور

182

بچوں اور عورتوں کو اکثر علامات میں عضلاتی اعصابی جوانوں اور مردوں کو غدی اعصابی اور بوڑھوں کوعضلاتی غدی اورغدی عضلاتی ادویات زیادہ مفیدر ہتی ہیں۔ جگہ

اگراعصابی تحریک کے مریضوں کو عضلاتی اددیات سے جلد فائدہ نہ ہور ہا ہوتو پھر انہیں غدی اددیات استعال کردائیں _عصلاتی اورغدی اددیات ملا کر استعال کردانے سے بھی فوری فائدہ ہوتا ہے۔

☆.....☆

تیل اتناد الیس کہ تعکمود اتیل میں دورت لے کراس کو کتر لیس اور کسی برتن میں دال کراو پرتلوں کا تیل اتناد الیس کہ تعکمود اتیل میں دوب جائے۔ پھر برتن کو آگ پر دکھ کر تعکمود بے کوتیل میں جلالیس جب تعکمود ابالکل جل جائے تو اتار کرتیل کو چھان لیس اس تیل کی سر پر مالش کرنے سے اکثر لوگوں کے بال جعز تابند ہوجاتے ہیں۔ ایک شخص کثرت سے بال جعز نے کی وجہ سے تنجا ہور ہاتھا۔ اس تیل کے مسلسل استعال سے اس کے بال جعز تابند ہو گئے اور نے بال مجمی پید اہوتا شروع ہو گئے۔

☆.....☆.....☆

اگراعصابی غذائیں کھانے سے کوئی تکلیف ہوجائے تو عضلاتی غذائیں کھائیں اور اگر عضلاتی غذائیں کھانے سے کوئی تکلیف ہوجائے تو غدی غذائیں کھائیں اور اگرغدی غذائیں کھانے سے کوئی تکلیف ہوجائے تو فوراً اعصابی غذائیں استعال کریں۔اکثر معمولی تکلیفیں صرف غذاؤں کی تبدیلی سے ہی ختم ہوجاتی ہیں۔

ايے مريض جن كور مد ب كوئى خطرتاك تكليف بواوران ب عضور كيس دل جكرادر

كانيذقانون مغرداعصاء

دماغ تباہ ہو گئے ہوں۔ ان کے تندرست ہونے کی امید بہت کم ہوتی ہے مثلاً غدی تر یک کی شدت میں برقان کے بعد جو استدعاء یعنی پید میں پانی پڑ جاتا ہے اگر اس کا برقت صحح علان تنہ کیا جائے تو مضور یم جگر اور دل بہت متاثر ہوتے ہیں ایسے مریض بہت کم شمیک ہوتے ہیں۔ ورندا کثر مرجاتے ہیں اس لئے ایسے مریض کو کسی ہپتال یا اپنے سے سینز ڈاکٹر عکیم کے پاس بھیج دیتا چاہئے۔ کیونکہ ایسے مریضوں کے لئے معالی کی ذرائی خلطی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور معالی کے لئے بدتا می اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔

syed imran sherazi

عكيم شهباز سين اعوان كمالى سيروى شاگردشید حکیم محریلیین دنیایوری طلیقلیہ



تعارف

Mob: 0300-6264360

عیم شہباز حسین اعوان کمالی سوہدروی کاشار پاکتان کے معروف طبیبوں میں ہوتا ہے۔آپ ستاذ الحکماء حکیم محمد لیمین دُنیا پور گ مصنف طبی کتب کثیرہ کے شاگر درشید ہیں۔ آپ ملک بھر میں شہرت کھتے ہیں اور پشاور سے لے کر کراچی تک لوگ علاج معالجہ کے لئے آپ کے پاس سوہدرہ آتے ہیں ند تعالی نے آپ کوعلم طب میں مہارت کے ساتھ ساتھ دست شفاء سے بھی نوازا ہے۔ آپ دُکھی مانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ صدقہ جارید کے طور پراپنے تجربات ومشاہدات سے دوسر ے طبیب ئوں کو آگاہ کرنے کے لیے طبی کتب بھی لکھر ب ہیں۔ آپ کی کھی ہوئی طبی کتب نے ملک بھر میں ولیت حاصل کی ہے اوران کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ادارہ مطبوعات سلیمانی آپ کی لکھی لى چركت شائع كررباب-جوكددن ذيل بي-كائيد قانون فرراعضاء ناشابكار بحربات وحوثى في مجربات اول ودوم مد بياض شهباز يسحرقانون فرداعضاء مردول کی بیاریاں اور اُن کاعلاج ، رہنمائے مطب JO, رجان ماركيت غرفى ستريي اردوادا ولا مور . فون: 042-37232788 042-37361408 E-mail: idarasulemani@yahoo.com

www.sulemani.com.pk